

Arabic Vocabulary

Arabic Conversation

LEARNING THROUGH
AUDIO VISUAL

VOLUME
3

GOOD NEWS
For Grade 4 & 5

Easy Techniques Of Memorising

Prepared and Recited by

شيخ ارشد بشير عمري مدني سلمه الله

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA
Founder & Director of AskIslamPedia.com
Chairman: Ocean The ABM School, Hyd. India.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

All Rights Reserved with Publisher®

AskIslamPedia.com - Academic Wing
under the supervision of

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Alim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A.;
Founder & Director of AskIslamPedia.com
Chairman: Ocean The ABM School, Hyd. India.
+91 92906 21633 (WhatsApp only)

www.abmqurannotes.com | www.askislampedia.com
www.askmadani.com



مقدمہ

د لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

عربی زبان میں قرآن و حدیث کو نازل کیا گیا ہے اس لیے اس زبان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے اہم ہے؛ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور بولنے کے لیے ذخیرہ الفاظ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، طلبہ کو اس زبان کی طرف راغب کرنے کے لیے میں نے 6000 قرآنی کلمات کے ذخیرہ پر ۶ جلد پر مشتمل کتاب تیار کی ہے؛ قرآنی کلمات کے جمع و ترتیب کے ساتھ ساتھ عربی کے روزمرہ استعمال ہونے والے کلمات اور محادثات (گفتگو) کے جمع کا کام بھی جاری تھا جو الحمد للہ مکمل ہوا، زیر نظر کتاب میں بنیادی اور روزمرہ استعمال ہونے والے عربی الفاظ و محادثات کو بہت خوبصورت انداز میں جمع کیا گیا ہے؛ اور ساتھ ہی اس کو میں نے اپنی آواز بھی دی ہے تاکہ طلبہ سن کر ذہن نشین کر لیں اور انہیں یاد کرنے میں سہولت ہو سکے۔ الحمد للہ پہلے مرحلے (volume no: 1) میں چھوٹے بچوں کے لیے محادثات کے سطور کے ساتھ ۳۱۳ الفاظ رکھے گئے ہیں؛ دوسرے اور تیسرے مرحلے (2nd & 3rd volumes) میں بڑی مقدار میں کلمات و محادثات پیش کیے گئے ہیں اور سہ لسانی (انگریزی، اردو، رومن) میں مواد پیش کیا گیا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور جملہ متعلقین کو ثواب جاریہ عطا فرمائے۔ آمین

والسلام

حافظ ارشد بشیر عمری مدنی

Preface

To highlight the virtue of the Arabic language it is sufficient to note that it is the language of the Qur'aan and Sunnah. Muslims have to learn this language as much as they need for Islamic purposes. Vocabulary is central to any language learning because without sufficient vocabulary students cannot understand or express their own ideas. Therefore, I have written a book comprising of 6 Volumes which includes 6000 Quranic Words. Besides this, I have also compiled those Arabic words and phrases which are commonly used in our daily lives in a beautiful manner. I have also recorded those words in my voice so that it becomes easy for the students to revise and memorize it by listening.

In the first level i.e. Volume 01, 313 words have been added along with the lines of phrases for the kids.

In the next levels i.e. Volume 02 and Volume 03, numerous words and phrases have been added.

All the above mentioned information has been provided in plain languages i.e. English, Urdu and Roman.


I beseech Allaah to accept my efforts and reward all of my relatives.

Ameen

Muallim : Arshad Basheer Madani

Founder : www.askislampedia.com, www.abmqurannotes.com

Assalamualaikum



Author:

الشيخ ارشد بشير عمري، مدني سئل الله

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com | Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

+91 92906 21633 (whatsapp only)

www.abmqurannotes.com | www.askislampedia.com | www.askmadani.com



Sl. No.	Topic	Page No.
1.	Arabic Vocabulary	1
2.	Arabic Conversation	9
3.	Lesson 1	10
4.	Lesson 2	15
5.	Lesson 3	22
6.	Lesson 4	29
7.	Lesson 5	35
8.	Lesson 6	41
9.	Lesson 7	45
10.	Lesson 8	59
11.	Lesson 9	65
12.	Lesson 10	75
13.	Lesson 11	79
14.	Lesson 12	89
15.	Lesson 13	90
16.	Lesson 14	98
17.	Lesson 15	106
18.	Lesson 16	110
19.	Lesson 17	113
20.	Muallim Guide	141
21.	Communication Skills	145
22.	6 Dimensions	148
23.	9 Advices to learn a language	153




خزانة الكلمات العربية

عربي الفاظ

Arabic Vocabulary



الكلمات العربية



ENGLISH	اردو	ROMAN	عربي
Kindergarten	نرسرى اسكول	Rauzatul atfaal	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
School	اسكول	Madrasah	مَدْرَسَةٌ
Primary school	پرائمرى اسكول	Madrasah ibtdaiyyah	مَدْرَسَةٌ اِبْتِدَائِيَّةٌ
Middle school	مڈل اسكول	Madrasah e'daadiyyah	مَدْرَسَةٌ اِعْدَادِيَّةٌ
High school	هائى اسكول	Madrasah saanawiyah	مَدْرَسَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
College	كالج	Kulliyah	كَلِيَّةٌ
University	يونيورسى	Jaamiah	جَامِعَةٌ
Institute	انسٹی ٹیوٹ	Ma'had	مَعْهَدٌ
Class	كلاس	Fasl	فَصْلٌ
Tutor/ teacher	استاذ	Mu'allim	مُعَلِّمٌ
Teacher	مدرس	Mudarris	مُدَرِّسٌ
Professor	پروفیسر	Ustaaaz	اُسْتَاذٌ
Student	طالب علم	Taalib	طَالِبٌ
Student	شاگرد	Tilmeez	تَلْمِيذٌ
Headmaster	هيد ماسٽر / مہتمم، ڈائریکٽر	Mudeer	مُدِيرٌ
Chancellor	چانسلر	Raees	رَئِيسٌ

الكلمات العربية

Dean/ principal	ڈین / پرنسپل	Ameed	عَمِيدٌ
Inspector	انسپیکٹر	Mufattish	مُفْتِّشٌ
Registrar	رجسٹرار	Musajjil	مُسَجِّلٌ
Primary	ابتدائی (پرائمری)	Ibtidaee	إِبْتِدَائِيٌّ
Preparatory	اعدادی	E'daadi	إِعْدَائِيٌّ
Secondary	ثانوی	Saanawi	ثَانَوِيٌّ
School library	اسکول لائبریری	Maktabatul madrasah	مَكْتَبَةُ الْمَدْرَسَةِ
Laboratory	لسبارٹری	Ma'mal	مَعْمَلٌ
Technical institute	ٹیکنیکی ادارہ	Ma'had fanni	مَعْهَدٌ فَنِّيٌّ
Academy	اکیڈمی	Majma' ilmi	مَجْمَعٌ عِلْمِيٌّ
Register	رجسٹر	Sijil	سِجِلٌ
Note book	نوٹ بک / کاپی	Kurraasah	كُرْرَاسَةٌ
Fountain pen	فائونٹین پین	Qalamu hibrin saaelin	قَلَمٌ حَبْرِيٌّ سَائِلِيٌّ
Ball point pen	بال پوائنٹ پین	Qalamu hibrin naashifin	قَلَمٌ حَبْرِيٌّ نَاشِفِيٌّ
Pencil	پنسل	Qalamu rasaas	قَلَمٌ رَصَاصِيٌّ
Scale	اسکیل	Mistarah	مِسْطَرَةٌ
Book	کتاب	Kitaab	كِتَابٌ
Dictionary	ڈکشنری	Qaamoos	قَامُوسٌ
Rubber/ Eraser	ربر	Mimhaah/ mahhaayah	مِمْحَاةٌ \ مَحْحَاةٌ
Pencil sharpener	تراش	Barraayah	بَرَّايَةٌ
Inkpot	دوات	Mihbarah	مِحْبَرَةٌ
Ink	روشائی	Hibr	حَبْرٌ
Blotter - Blotting	سیاہی چوس، جاذب	Nashshaafah	نَشَّافَةٌ

الكلمات العربية

Lecturer	لیکچرر	Muhaazir	مُحَاَصِرٌ
Professor	پروفیسر	Ustaaz	أُسْتَاذٌ
Doctor	ڈاکٹر	Tabeeb	طَبِيبٌ
Surgeon	سرجن	Jarraah	جَرَّاحٌ
Dentist	انتوں کا ڈاکٹر	Tabeebu asnaan	طَبِيبُ أَسْنَانٍ
General Physician	جنرل فزیشن	Tabeebu aam	طَبِيبٌ عَامٌّ
Eye- specialist	آنکھوں کا ڈاکٹر	Tabeebu uyoon	طَبِيبٌ عُيُونٍ
Veterinary doctor	مویشیوں کا ڈاکٹر	Tabeebu baitari	طَبِيبٌ بَيْطَرِيٌّ
Nurse	نرس	Mumarrizah	مُمَرِّضَةٌ
Specialist	اسپیشلسٹ	Akhsaaee	أَخْصَايِيٌّ
Accountant	اکاؤنٹینٹ	Muhaasib	مُحَاَسِبٌ
Book- Keeper	بک کیپر	Maasiku dafaatir	مَاسِكُ دَفَاتِيرَ
Auditor	آڈیٹر	Mudaqqiqu hisaabaat	مُدَقِّقُ حِسَابَاتٍ
Judge	جج	Qaazi	قَاضٍ (أَلْقَاضِي)
Chief justice	چیف جسٹس	Raeesul quzaah	رَئِيسُ الْقُضَاةِ
Advocate/ Lawyer	وکیل	Muhaami	مُحَامٍ (أَلْمُحَامِي)
Draftsman	ڈرافٹس مین	Rassaam	رَسَّامٌ
Actor	اداکار	Mumassil	مُمَثِّلٌ
Actress	اداکارہ	Mumassilah	مُمَثِّلَةٌ
Photographer	فوتو گرافر	Musawwir	مُصَوِّرٌ
Producer	پروڈیوسر	Mukhrij	مُخْرِجٌ
Cameraman	کیمرامین	Musawwir	مُصَوِّرٌ (سِينِمَايِيٌّ)
Soldier	فوجی	Jundi	جُنْدِيٌّ

الكلمات العربية

Policeman	پولیس	Shurti	شُرْطِيّ
Announcer	اناؤنسر	Muzee'	مُذَبِّع
Businessman	تاجر	Taajir	تَاجِرٌ
Magician	جادوگر	Saahir-musha'wiz	سَاحِرٌ - مُشْغُوذٌ
poet	شاعر	Shaaer	شَاعِرٌ
Bank clerk	بنک کا ملازم	Muwazzaf fil masraf	مُوَظَّفٌ فِي الْمَصْرَفِ
Contractor	عھکيدار	Muqaawil	مُقَاوِلٌ
Book binder	جلد ساز	Mujallidul maktab	مُجَلِّدُ الْمَكْتَبِ
Pharmaciŝt/ chemiŝt	دوا فروخت کرنے والا	Saidali	صَيْدَلِيّ
Politician	سياستدان	Siyaasi	سِيَّاسِيّ
Landlord	زميندار	Maalikul arz	مَالِكُ الْأَرْضِ
Noveliŝt/ Story Writer	ناول نگار	Riwaace	رِوَايِيّ
Builder	معمار	Bannaa'	بَنَّاؤٌ
Greengrocer	سبزی فروش	Baaeu khuzaar	بَاعِ حُضَارِ
Gardener	باغبان / مالی	Buŝtaani	بُسْتَانِيّ
Floriŝt	گل فروش	Baaeu azhaar	بَاعِ أَزْهَارِ
Salesman	سليزمن	Baae'	بَاعِ
Sailor/ Seaman	کشتی بان / ملّاح	Bahhaarah	بَحَّارَةٌ
Newspaper vendor	اخبار بیچنے والا	Baaeus suhuf	بَاعِ الصُّحُفِ
Hawker	پھیری والا	Baaeu mutajawwil	بَاعِ مُتَجَوِّلِ
Retailer	خرده فروش / چون فروش	Baaeu bittajzi'ah	بَاعِ بِالتَّجْرِئَةِ
Shoe maker / cobbler	موچی	Iskaaf	إِسْكَافٌ
Blacksmith	لوہار	Haddaad	حَدَّادٌ

الكلمات العربية

Baker	نان بانى	Khabbaaz	خَبَّازٌ
Barber / Hairdresser	نانى	Hallaaq	حَالِقٌ
Confection	حلوانى	Halwaani	حَلْوَانِيٌّ
Greengrocer	سبزی فروش	Khuzri	خُضْرِيٌّ
Turner	خردايه	Kharraat	خَرَّاطٌ
Watchman/ guard	چو كيدار	Haaris	حَارِشٌ
Butcher	قصابى	Jazzaar	جَزَّازٌ
Weaver / knitter	جولابا	Haaek	حَابِكٌ
Shoe maker	جوتا بنانے والا	Hazzaa'	حَدَّاءٌ
Jeweler	جوهرى	Jauhari	جَوْهَرِيٌّ
Servant / Waiter	خادم	Khadim	خَادِمٌ
Treasurer	خزائنى	Khazin	خَازِنٌ
Craftsman / artisan	دستكار	Hirafi	حِرْفِيٌّ
Potter	كهار	Kharraaf	خَرَّافٌ
Coachman	كوچوان	Hoozi	خُوذِيٌّ
Milkman	گولا	Hallaab – baaeul haleeb	حَالِبٌ – بَابِعُ الْحَلِيبِ
Tailor	درزى	Khayyaat	خَيْتَاطٌ
Porter	قلی	Hammaal	حَمَّالٌ
Oil Seller	تیل	Zayyaat	زَيَّاتٌ
Painter	پینٹر	Dahhaan	دَهَّانٌ
Broker/ agent	بروکر ایجنٹ	Simsaar	سِمْسَارٌ
Watchmaker	گھڑی ساز	Saa'aati	سَاعَاتِيٌّ

الكلمات العربية

Plumber	پلمبر	Samkari	سَمَكْرِي
Butter merchant	گھی فروش	Sammaan	سَمَّان
Driver	ڈرائیور	Saaeq	سَاعِق
Dyer	رنگت ریز	Sabbaagh	صَبَّاع
Cobbler	موچی	Saaneu ahziyah	صَانِعُ أَحْذِيَّةِ
Fisherman	مچھیرا	Sammaak	سَمَّاك
Locksmith	تالے بنانے والا	Saaneu aqfaal	صَانِعُ أَقْفَالِ
Shopkeeper	دکاندار	Saahibu matjar	صَاحِبُ مَتْجَر
Postman	ڈاکیر	Saael bareed	سَاعِي الْبَرِيد
Goldsmith	سٹار، زرگر	Saae'	صَاعِ
Glassmaker	شیشہ لگانے والا	Zajjaaj	زَجَّاج
Typist	ٹائپسٹ	Zaarib alal aalatil kaatibah	صَارِبُ عَلَيِ الْآلَةِ الْكَاتِبَةِ
Miller	پکی والا	Tahhaan	طَحَّان
Labour	مزدور	Aamil	عَامِل
Seller of perfume	عطر فروش	Attar	عَطَّار
White Washer	سفیدی کرنے والا	Tarraash	طَوَّاش
Pressman/ printer	چھاپنے والا	Tabbaa'	طَبَّاع
cook	باورچی	Tabbaakh	طَبَّاح
Laundryman	دھوئی	Ghassaal	عَسَّال
Docker	گودی مَرور	Aamilu raseefil meenaa'	عَامِلُ رَصِيفِ الْمِينَاءِ
Coal miner	کان کن	Aamilun fi manjam	عَامِلٌ فِي مَنْجَمِ
Welder	ویلڈر	Lihaam	لِحَام

الكلمات العربية

Conductor	کنڈکٹر	Qaatiut-tazaakir	قَاطِعُ القِطَارِ
Dramatist/ Playwright	ڈرامہ نگار	Kaatib masrahi	کَاتِبُ مَسْرُوحِيّ
T.T.E	ٹی ٹی ای	Qaatiut-tazaakir fil qitaar	قَاطِعُ القِطَارِ فِي القِطَارِ
Farmer	کسان	Fallaah	فَالَّاحُ
Sweeper	جاروب کش / جھاڑو دینے والا	Kannaas	کَنَّاشُ
Electrician	الیکٹریشن	Kahrabaae	کَهْرَبَائِيّ
Artist	آرٹسٹ	Fannaan	فَنَّانُ
Waiter	ویٹر	Jarsoon – nidl	جَرَسُونُ – نِدْلُ
Carpenter	بڑھی	Najjaar	نَجَّارُ
Upholsterer	صوفہ ساز	Munajjid	مُنَجِّدُ
Vaccinator	پچھ کے سیکے لگانے والا	Mulaqqih	مُلَقِّحُ
Stableman	اصطبل دار	Saaesu khuyool	سَاسِيسُ خُيُولِ
Sculptor/ carver	سگ تراش	Nahhaat	نَحَّاتُ
Mechanic/ operator	مشین آپریٹر	Aamilu mikaaniki	عَامِلُ مِيكَانِيكِيّ
Sailor/ seaman	مانجھی	Nooti	نُوتِيّ
Clown/ joker	جوکر - مسخرہ	Muharrij	مُهَرِّجُ

سلسلة المحادثات باللغة العربية

للمناهج الدراسية بالمدارس للعلوم العصرية والشعرية

عربي گفتگو

Arabic
Conversation



LESSON

1

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 1

مَا هَذَا (هَذِهِ) + قَلَمٌ / كُرْسِيٌّ / مَكْتَبٌ / كُرْسِيٌّ

What is this	یہ کیا ہے؟	مَا هَذَا (هَذَا/هَذِهِ)
مَا هَذَا (هَذِهِ) + قَلَمٌ / كُرْسِيٌّ / مَكْتَبٌ / كُرْسِيٌّ		
English	Urdu	Arabic
This is a pen	یہ قلم ہے	هَذَا قَلَمٌ
This is a chair	یہ کرسی ہے	هَذَا كُرْسِيٌّ
This is a desk	یہ قلمدان ہے	هَذَا مَكْتَبٌ
This is a note book	یہ پوچھ ہے	هَذِهِ كُرْسِيٌّ
This is a bag	یہ بیگ ہے	هَذِهِ حَقِيْبَةٌ
This is a mobile	یہ موبائل ہے	هَذَا جَوَّالٌ

LESSON - 1

مَا هَذَا (هَذِهِ) + قَلَمٌ / كُرْسِيٌّ / مَكْتَبٌ / كُرْسِيٌّ

This is an egg	یہ انڈا ہے	هَذَا بَيْضٌ
This is a hen	یہ مرغی ہے	هَذِهِ دَجَاجَةٌ
This is a chocolate	یہ چاکلیٹ ہے	هَذِهِ شُوكَاَلَاتَةٌ
This is a game	یہ کھیل ہے	هَذِهِ لُعْبَةٌ
This is a horse	یہ گھوڑا ہے	هَذَا الْفَرَسُ
This is a cat	یہ بلی ہے	هَذَا الْقَطُّ
This is a cow	یہ گائے ہے	هَذِهِ الْبَقْرَةُ

EXERCISES

Animals الْحَيَوَانَاتُ

Qit / القِطُّ
Cat / بلي



Baqarah / البَقْرَةُ
Cow / گائے



Faras / الْفَرَسُ
Horse / گھوڑا



Feel / الْفَيْلُ
Elephant / ہاتھی



Kalb / الْكَلْبُ
Dog / کتا



Timsah / التِّمْسَاحُ
Alligator / مگر مچھ



EXERCISES

Animals الْحَيَوَانَاتُ

Arnab / الأَرْنَبُ
Rabbit / خرگوش



Taa'er / الطَّائِرُ
Bird / پرندہ



Zarafah / الزَّرَافَةُ
Giraffe / ژراف



Feel / الْفَيْلُ
Bear / رپچھ



Babru / البَبْرُ
Lion / ببر



Asasd / الأَسَدُ
Tiger / شیر



EXERCISES

Animals الْحَيَوَانَاتُ

Hayyah / الْحَيَّةُ
Snake / سانپ



Fa'r / الْفَأْرُ
Mouse / چوہا



Qird / الْقِرْدُ
Monkey / بندر



Ghazaal / الْغَزَالُ
Deer / ہرن





LESSON

2

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 2

هَذَا + مُعَلِّمٌ / هَذِهِ + مُعَلِّبَةٌ

Who is this	یہ کون ہے	مَنْ هَذَا؟
هَذَا + مُعَلِّمٌ / هَذِهِ + مُعَلِّبَةٌ		
English	Urdu	Arabic
This is the teacher(male)	یہ استاذ ہے	هَذَا مُعَلِّمٌ
This is the teacher(female)	یہ استاذہ ہے	هَذِهِ مُعَلِّبَةٌ
This is the father	یہ والد ہے	هَذَا أَبٌ
This is the mother	یہ والدہ ہے	هَذِهِ أُمٌّ
This is the sister	یہ بہن ہے	هَذِهِ أُخْتُ
This is the brother	یہ بھائی ہے	هَذَا أَخٌ

LESSON - 2

هَذَا + مُعَلِّمٌ / هَذِهِ + مُعَلِّبَةٌ

This is the grand father	یہ دادا ہے	هَذَا جَدُّ
This is the grand mother	یہ دادی ہے	هَذِهِ جَدَّةٌ
This is the doctor	یہ ڈاکٹر ہے	هَذَا طَبِيبٌ
This is the boy	یہ لڑکا ہے	هَذَا وَلَدٌ
This is the girl	یہ لڑکی ہے	هَذِهِ بِنْتُ
This is the husband	یہ شوہر ہے	هَذَا زَوْجٌ
This is the wife	یہ بیوی ہے	هَذِهِ زَوْجَةٌ

LESSON-2

EXERCISES



LESSON - 2

EXERCISES

English	Roman	Urdu	Arabic
Father	Ab	باپ	أَب
Mother	Um	ماں	أُمُّ
Husband	Zauj	شوہر	زَوْج
Wife	Zaujah	بیوی	زَوْجَةٌ
Son	Ibn	بیٹا	بِئْن

LESSON - 2

EXERCISES

Daughter	Ibnah	بِی	ابْنَةُ
Brother	Akh	بھائی	أَخٌ
Sister	Ukht	بھن	أُخْتُ
Grandfather	Jad	دادا	جَدُّ
Grandmother	Jaddah	دادی	جَدَّةٌ
Uncle	Am	چاچا/تایا	عَمُّ
People	An-Naas	لوگ	النَّاسُ



LESSON

3

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 3

مَنْ هُوَ؟ مَنْ هِيَ؟ مَنْ هُمْ؟ مَنْ هُنَّ؟

تعریف

ایسے الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کئے جائیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔

Ta'reef







Aise alfaaz jo kisi naam ki jagah par istemaal kiye jaaye inko ZAMEER (Pronoun) kaha jata hai.

Definition

A Pronoun is a word used as a substitute for a Noun.

LESSON - 3

مَنْ هُوَ؟ مَنْ هِيَ؟ مَنْ هُمْ؟ مَنْ هُنَّ؟

Detached Pronouns	Az-zameer al-Munfasil		الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ	
Example	3 rd Person Male		غائب مذكر	
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (سورة الإخلاص: 1)	He	وه	Huwa	هُوَ 
إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ (التوبة: 40)	They(both)	وه دونون	Humaa	هُمَا 
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرة)	They (All)	وه سب	Hum	هُم 
	3 rd Person Female		غائب مؤنث	
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا (التوبة: 40)	She	وه	Hiya	هِيَ 
هُمَا سَيِّدَتَانِ	They(both)	وه دونون	Humaa	هُمَا 
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ (البقرة: 187)	They (All)	وه سب	Hunna	هُنَّ 

LESSON - 3


EXERCISES

	2 nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (البقرة: 32)	You	آپ	Anta	أنتَ 🧔
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْعَالِيُونَ (القصص: 35)	You(both)	آپ دونوں	Antumaa	أنتما 🧔🧔
فَقُولُ أَنْتُمْ مُّقْتَبُونَ (المائدہ: 91)	You (All)	آپ سب	Antum	أنتم 🧔🧔🧔
	2 nd Person Female		حاضر مؤنث	
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَبَّيْكَ أَنْتِ يَا رَحْمَتِي (بخاری: 4850)	You	آپ	Anti	أنتِ 🧑
أَنْتُمْ طَالِبَاتَانِ	You(both)	آپ دونوں	Antumaa	أنتما 🧑🧑
أَنْتُنَّ طَالِبَاتٌ	You (All)	آپ سب	Antunna	أنتنَّ 🧑🧑🧑

LESSON - 3

EXERCISES

	1 st Person Male Female	متکلم مذکر و مؤنث		
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ (الانعام: 79)	I	میں	Ana	أنا
تَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ (الصف: 14)	We	ہم	Nahhu	نحن

English	Urdu	Arabic
3rd Person Male - غائب مذکر 		
Who is he?	وہ کون ہیں؟	مَنْ هُوَ؟
Who are they?	وہ دونوں کون ہیں؟	مَنْ هُمَا؟
Who are they?	وہ سب کون ہیں؟	مَنْ هُمْ؟


LESSON - 3

EXERCISES

3rd Person Female - غائب موث -

Who is She?	وہ کون ہیں؟	 مَن هِيَ؟
Who are they?	وہ دونوں کون ہیں؟	مَن هُمَا؟
Who are they?	وہ سب کون ہیں؟	مَن هُنَّ؟

2nd Person Male - حاضر مذکر -

Who are you	آپ کون ہو / ہیں؟	 مَن أَنْتَ؟
Who are you	آپ دونوں کون ہو / ہیں؟	مَن أَنْتُمَا؟
Who are you	آپ سب کون ہو / ہیں؟	مَن أَنْتُمْ؟

LESSON - 3

EXERCISES

2nd Person Female - حاضر موث -

Who are you	آپ کون ہو / ہیں؟	مَنْ أَنْتِ
Who are you	آپ دونوں کون ہو / ہیں؟	مَنْ أَنْتُمَا
Who are you	آپ سب کون ہو / ہیں؟	مَنْ أَنْتُنَّ



LESSON

4

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 4

أَهَذَا قَلَمٌ؟ لَا، هَذَا كِتَابٌ

English	Urdu	Arabic
Is this a pen? no, this is a book	کیا یہ قلم ہے؟ نہیں، یہ کتاب ہے	أَهَذَا قَلَمٌ؟ لَا، هَذَا كِتَابٌ
Is this a chair? no, this is a desk	کیا یہ کرسی ہے؟ نہیں، یہ قلمدان ہے	أَهَذَا كُرْسِيٌّ؟ لَا، هَذَا مَكْتَبٌ
Is this star a chair? no, this is a moon	کیا یہ ستارہ ہے؟ نہیں، یہ چاند ہے	أَهَذَا نَجْمٌ؟ لَا، هَذَا قَمَرٌ

LESSON - 4

أَهَذَا قَلَمٌ؟ لَا هَذَا كِتَابٌ

Is this a Mobile? no, this
is a Computer

کیا یہ موبائل ہے؟ نہیں، یہ کمپیوٹر ہے

أَهَذَا جَوَّالٌ؟ لَا هَذَا الحَاسُوبُ

Is this a horse? no, this
is a camel

کیا یہ گھوڑا ہے؟ نہیں، یہ اونٹ ہے

أَهَذَا حِصَانٌ؟ لَا هَذَا جَمَلٌ

Is this a lion? no, this is
a cat

کیا یہ بڑا شیر ہے؟ نہیں، یہ بلی ہے

أَهَذَا أَسَدٌ؟ لَا هَذَا قِطٌّ

LESSON - 4

EXERCISES

Jazar / الجَزْرُ
Carrot / كَرْتِ



Kurunb / الكُرُنْبُ
Cabbage / كَوْبِي



Batatis / البَطَاتِسُ
Potato / آلو



Tamatim / الطَّمَاتِمُ
Tomato / ثَمَّار



Sabaanikh / السَّبَانِيخُ
Spinach / پَالَك



Baazilla'a / البَاذِلَاءُ
Peas / مَر



LESSON - 4

EXERCISES

Soomun/الْفُؤْمُ
Garlic/البهن



Basal/الْبَصَلُ
Onion/پیاز



Khas/الْحَشُّ
Lettuce/کاهوپتہ



Khiyaar/الْخِيَارُ
Cucumber/ککڑی



Fulful/الْفُلْفُلُ
Pepper/کالی مرچ



Fujl/الْفُجْلُ
Radishes/موی



LESSON - 4

EXERCISES

Baazinjaan / الباذنجان

Brinjal / بکین



Lift / اللفت
Turnip / شلجم



Zurah / الذرة
Corn / کئی



Baamiyah / البامیة
Lady Finger
بھنڈی





LESSON

5

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 5

أَنْتَ (أَهُوَ؟ أَهِيَ؟ أَهْمُ) مِنَ الْهِنْدِ؟ نَعَمْ نَعَمْ أَنَا

English	Urdu	Arabic
Are you from India?	کیا آپ انڈیا سے ہیں؟	أَأَنْتَ مِنَ الْهِنْدِ؟
Yes yes I am from India	ہاں ہاں میں انڈیا سے ہوں۔	نَعَمْ نَعَمْ أَنَا مِنَ الْهِنْدِ


Similarly you can use أَهْوُ؟ أَهِيَ؟ أَهْمُ

Is he from India?	کیا وہ انڈیا سے ہے؟	أَهُوَ مِنَ الْهِنْدِ؟
Is she from India?	کیا وہ (لڑکی / عورت) انڈیا سے ہے؟	أَهِيَ مِنَ الْهِنْدِ؟
Are they from India?	کیا وہ سب انڈیا سے ہیں؟	أَهْمُ مِنَ الْهِنْدِ؟

أَهُوَ / أَهِيَ / أَهْمُ + مِنَ الصِّبْيَانِ؛ مِنَ الْعَرَبِ؛ مِنَ الْعَجَمِ؛ مِنَ جُنُوبِ الْهِنْدِ؛ مِنَ شَمَالِ الْهِنْدِ؛ مِنَ أَمْرِيكَا؛ مِنَ أَوْرُشَا؟

LESSON - 5

EXERCISES



LESSON - 5

EXERCISES

Countries	Al-Bilad/Al-Buldan	ممالک	الْبِلَادُ/الْبُلْدَانُ
India	Al-Hind	ہندوستان	الْهِنْدُ
China	As-Seen	چین	الصِّينُ
Malaysia	Maaleeziya	ملیشیا	مَالِيْزِيَا
Indonesia	Indonesia	انڈونیشیا	اِنْدُوْنِيْسِيَا
Italy	Eetaaliya	اطلی	اِيْطَالِيَا

LESSON - 5

EXERCISES

Saudi Arabia	Al-Mamlakah Al-Arabiya As-sa'oodiyyah	سعودی عرب	المَمْلَكَة العَرَبِيَّة السَّعُودِيَّة
Japan	Al-Yaabaan	جاپان	اليابان
Spain	Isbaniya	ہسپانیہ / اسپین	إسبانيا
Sudan	As-Soodan	سوڈان	السُّودَان
Egypt	Misr	مصر	مِصر
Turkey	Turkiya	ترکی	تُرْكِيَا

LESSON - 5

EXERCISES

America	Amrica	امریکہ	أَمْرِيكَا
England	Injiltrira	انگلیٹڈ	إِنجِلْتِرَا
France	Faransa	فرانس	فَرَنْسَا
Germany	Almaaniya	جرمنی	أَلْمَانِيَا
Iran	Iraan	ایران	إِيْرَان
Yemen	Al-Yaman	یمن	الْيَمَنُ
Singapore	Singhafoora	سنگاپور	سِنْغَاפוْرَا



LESSON

6

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 6

أَذَلِك مَسْجِدٌ؟ لَا ذَلِكَ دُكَّانٌ / مَنْ ذَلِكَ؟ ذَلِكَ طَبِيبٌ / مَا ذَلِكَ؟ ذَلِكَ وَطْ

English	Urdu	Arabic
Is this Masjid? No, this is a shop	کیا یہ مسجد ہے؟ نہیں، یہ دکان ہے	أَذَلِك مَسْجِدٌ؟ لَا ذَلِكَ دُكَّانٌ
Who is that? That is a doctor	وہ کون ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے	مَنْ ذَلِكَ؟ ذَلِكَ طَبِيبٌ
What is that? That is a cat	وہ کیا ہے؟ وہ بلی ہے	مَا ذَلِكَ؟ ذَلِكَ وَطْ

بَيْتٌ / حِمَارٌ / كَلْبٌ / سَرِيْرٌ / اُسْتَاذٌ / تَلِيْمِيْدٌ / حَجْرٌ / لَبِيْنٌ / سَبُوْرَةٌ / سُوْرٌ

LESSON - 6

EXERCISES

Inab/العنب
Grapes/انگور



Burtoqaal/البُرْتُقَالُ
Orange/سنتره، نارنگی



At-toot/التُّوتُ
Apricot/خوبانی



Farawilah/الفَرَاوِيلَةُ
Strawberries
اسٹرابیری



Kummarsra/الْكُمَّارِسِي
Pear/ناشپتی



Burqooq/البُرْقُوقُ
Plum/آلو بخارا



LESSON - 6

EXERCISES

Inab/العنب
Grapes/انگور



Mauz/الموز

Banana/موز



Teen /التين
Fig/انجیر



Tamar/التمر
Dates/كجور



Bittikh/البطيخ
Watermelon/تربوزه



Shammam/الشمائم
Muskmelon/خربوزه





LESSON

7

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 7

هَلِ الْمَسْجِدُ صَغِيرٌ؟ لَا، الْمَسْجِدُ كَبِيرٌ

English	Urdu	Arabic
Is the Mosque small? No, the Mosque is big	کیا مسجد چھوٹی ہے؟ نہیں، یہ مسجد بڑی ہے	هَلِ الْمَسْجِدُ صَغِيرٌ؟ لَا، الْمَسْجِدُ كَبِيرٌ
Is the stone light? No the stone is heavy	کیا یہ پتھر ہلکا ہے؟ نہیں، یہ پتھر وزن ہے	هَلِ الْحَجَرٌ خَفِيفٌ؟ لَا الْحَجَرُ ثَقِيْلٌ
Is the man a teacher? No, this man is a doctor	کیا یہ آدمی استاذ ہے؟ نہیں یہ آدمی ڈاکٹر ہے	هَلِ الرَّجُلُ مُعَلِّمٌ؟ لَا الرَّجُلُ طَبِيْبٌ

LESSON - 7

EXERCISES

Is the milk hot? No, this is cold	کیا یہ دودھ گرم ہے؟ نہیں، یہ دودھ تھنڈا ہے	هَلِ اللَّبَنِ حَارٌّ؟ لَا اللَّبَنُ بَارِدٌ
Is the sun rising? Yes the sun is rising	کیا سورج طلوع ہو رہا ہے؟ ہاں! سورج طلوع ہو رہا ہے	هَلِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ؟ نَعَمْ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ
Exercise:		
The moon is visible	چاند دکھ رہا ہے	الْقَمَرُ طَالِعٌ
The shirt is short	شرٹ چھوٹی ہے	الْقَمِيصُ قَصِيرٌ
The water is hot	پانی گرم ہے	الْمَاءُ حَارٌّ

LESSON - 7

EXERCISES

The cloth is clean	کپڑا صاف ہے	الْتَّوْبُ طَاهِرٌ
The imam is standing	امام کھڑا ہے	الْإِمَامُ وَاقِفٌ
The teacher is present	استاذ حاضر ہے	الْمُدْرِسُ حَاضِرٌ
The student is absent	طالب علم غائب ہے	الْطَلِيبُ غَائِبٌ
The pen is broken	قلم (پن) ٹوٹا ہوا ہے	الْقَلَمُ مَكْسُورٌ
The Mosque is big	مسجد بڑی ہے	الْمَسْجِدُ كَبِيرٌ
The house is far	گھر دور ہے	الْبَيْتُ بَعِيدٌ
The washroom is clean	حمام صاف ہے	الْحَمَّامُ نَظِيفٌ

LESSON - 7

EXERCISES

The mall is open	شاہنگ مال کھلا ہوا ہے	الْمَتْجَرُ مَفْتُوحٌ
The mall is close	شاہنگ مال بند ہے	الْمَتْجَرُ مُغْلَقٌ

now you can use

أَوْ or أَمَّ

لَكِنْ or بَلْ

LESSON - 7

EXERCISES

For Example

The boy is tall or long
and the man is short

لڑکا طویل قامت اور اونچا ہے اور آدمی پستہ قد
ہے

الْوَلَدُ طَوِيلٌ وَالرَّجُلُ قَصِيْرٌ

No but the boy is small
and the man is tall and
or short
You can say "or short"

نہیں، بلکہ لڑکا چھوٹا اور آدمی طویل قامت یا
پستہ قد ہے

لَا بَلَّ الْوَلَدُ صَغِيْرٌ وَالرَّجُلُ كَبِيْرٌ
قَصِيْرٌ

LESSON - 7

EXERCISES

You can post in that way and you can raise the question like that:

Is the masjid small or big?

کیا مسجد بڑی ہے یا چھوٹی؟

هَلِ الْمَسْجِدُ صَغِيرٌ أَمْ كَبِيرٌ؟

Or you can utilize **أَوْ** or **أَمْ**

بَلِّ or **لَكِنَّ** Means but

LESSON - 7

EXERCISES

And you can use أو or أم The meaning of both " "أم" and " "أو" you can say
"or" in English "or" أم and " "أو" so you can utilize this word also هَلِ الْمَسْجِدُ
صَغِيرٌ أَمْ كَبِيرٌ And you can say

And you can say like that "لا-بَلَى" "not, but

LESSON - 7

House بَيْت EXERCISES - 1

Ghurfa/ غُرْفَةٌ
Room/ کمرہ



Bait/ البَيْتُ
House/ گھر



Mirhaas/ مِرْحَاصُ
Toilet/ بیت الخلاء



Naafizah/ نَافِذَةٌ
Window/ کھڑکی



Haaet/ حَائِطُ
Wall/ دیوار



LESSON - 7

House بَيْت EXERCISES - 1

Matbakh / مطبخ
Kitchen / باورچی خانہ



Ghurfatu Naum
Bedroom / بیڈروم



Taabaq / کابقی
Floor / فرش



Saqf / سَقْف
Ceiling / چھت



Mat'am / مطعم
Restaurant
رستورانٹ



Sat'h / سَطْح
Roof / چھت



LESSON - 7

EXERCISES - 2

الصِّفَاتُ وَأُضْدَادُهَا
صفات اور ان کی ضد

ADJECTIVES AND THEIR OPPOSITES

OPPOSITES	ADJECTIVES
صَغِيرٌ	كَبِيرٌ
بَعِيدٌ	قَرِيبٌ
شَرٌّ	حَسَنٌ
قَبِيحٌ	حَسَنٌ
فَقِيرٌ	غَنِيٌّ
أَخْبَرٌ	أَوْلٌ

LESSON - 7

EXERCISES - 2

يَسَارٌ	يَمِينٌ
عَذَابٌ/عِقَابٌ	ثَوَابٌ
حَيَاةٌ	مَوْتُ
تَأْوِصٌ	كَامِلٌ
مُتَوَاضِعٌ	مُتَكَبِّرٌ
سَبِيحٌ	صَالِحٌ
سَاحِنٌ	بَارِدٌ
جَافٌ	مُبَلِّلٌ

LESSON - 7

EXERCISES - 2

تَحْتِ	فَوْقَ
دَاخِلُ	خَارِجُ
صَعْبٌ	سَهْلٌ
مَبْلُغٌ / مَسْعُوفٌ	قَارِعٌ
وَرَاءَ	أَمَامَ
سَرِيعٌ	بَطِيءٌ
قَصِيرٌ	طَوِيلٌ
كُنَى	مَبْنِيَّةٌ

LESSON - 7

EXERCISES - 2

قَدِيمٌ

جَدِيدٌ

أَخْبِيفٌ

سَمِينٌ

مُغْلَقٌ

مَفْتُوحٌ

كَثِيرٌ

قَلِيلٌ



LESSON

8

www.abmprimanotes.com



LESSON - 8

أَيْنَ الدِّيْكُ؟ الدِّيْكُ عَلَى الْجِدَارِ

English	Urdu	Arabic
Where is the rooster? Rooster is on the wall	مرغا کہاں ہے؟ مرغا دیوار پر ہے	أَيْنَ الدِّيْكُ؟ الدِّيْكُ عَلَى الْجِدَارِ
Where is the doctor? The doctor is in the hospital	ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر ہاسپتال میں ہے	أَيْنَ الطَّبِيبِ؟ الطَّبِيبُ فِي الْمُسْتَشْفَى
Where is the businessman? The businessman is in the Mall	بسنس مان کہاں ہے؟ تاجر شاپنگ مال میں ہے	أَيْنَ التَّاجِرِ؟ التَّاجِرُ فِي الْمَتَجَرِ
Where is the moon? The moon is in the sky	چاند کہاں ہے؟ چاند آسمان میں ہے	أَيْنَ الْقَمَرِ؟ الْقَمَرُ فِي السَّمَاءِ
Where is the moon? The moon is in the sky	مچھلی کہاں ہے؟ مچھلی پانی میں ہے	أَيْنَ السَّمَكِ؟ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ / الْبَحْرِ

LESSON - 8

أَيُّنَ الدِّيِّكُ؛ الدِّيِّكُ عَلَى الجِدَارِ

		أَيُّنَ الدُّكَّانُ؛ الدُّكَّانُ قَرِيبٌ
		أَيُّنَ الدَّفْتَرُ؛ الدَّفْتَرُ فِي الحَقِيبَةِ
		أَيُّنَ الثُّفَّاحُ؛ الثُّفَّاحُ فِي الثَّلَاجَةِ
		أَيُّنَ الكَعْبَةِ؛ الكَعْبَةُ فِي مَكَّةَ
		أَيُّنَ السَّاعَةِ؛ السَّاعَةُ عَلَى اليَدِ
		أَيُّنَ رَيِّبٌ؛ هِيَ فِي العُرْفَةِ
		أَيُّنَ الوَلَدُ؛ هُوَ فِي البَدْرَةِ

LESSON - 8

EXERCISES

Mil'aqah / مِلْعَقَةٌ
Spoon / چمچہ



Shaukah / شَوْكَةٌ
Fork / کاشا



Sikkeen / سِکِّين
Knife / چاقو



Mighrafah / مِغْرَفَةٌ
Ladle / دُونِي



Ibraqu Qahwa / اِبْرَاقِي قَهْوَةٌ
Coffee Pot
کافی جگ



Ghalayah Shaa / غَلَايَةُ شَاي
Kettle / کیتلی



LESSON - 8

EXERCISES

Tabaq / طَبَق
Plate / رَكَابِي



طَبَقُ فِنْجَان
Tabaq Finjaan
Soucer / طَشْتَرِي



Saltaniyah / سَلْطَانِيَّة
Bwol / كَوْرَه



Qidr / قِدْر
Pot
هَانْدِي، بَگُونَا، دِپْتِي



Gassaalah / غَسَّالَةٌ
Washing
Machine
واشِك مَشِين



Sallajah / سَلَّاجَة
Fridge / فَرِج



LESSON - 8

EXERCISES

بوتاجاز /
Cooker /
كوكر



رَفُّ الْمَطْبَخِ
Raffu Matbakh
Kitchen Stand



مَكْنَسَة كَهْرَبَائِيَّة
Maknasat
Kahrabayiyah
Vacuum Cleaner





LESSON 9

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 9

مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

English	Urdu	Arabic
Who is in school? The student in the school	مدرسہ میں کون ہے؟ مدرسے میں طالب علم ہے	مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ
Who is in kitchen? The mother in the kitchen	کچن میں کون ہے؟ کچن میں ماں ہے	مَنْ فِي الْمَطْبَخِ؟ الْأُمُّ فِي الْمَطْبَخِ
Who is in Hospital? The patient in the hospital	ہاسپتال میں کون ہے؟ ہاسپتال میں مریض ہے	مَنْ فِي الْمُسْتَشْفَى؟ الْمَرِيضُ فِي الْمُسْتَشْفَى
Who is in shop? The business man in the school	دکان میں کون ہے؟ دکان میں تاجر ہے	مَنْ فِي الدُّكَّانِ؟ التَّاجِرُ فِي الدُّكَّانِ
Who is in school? The student and the teacher are in school	مدرسے میں کون ہے؟ مدرسے میں استاذ اور شاگرد ہے	مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ وَالْمُعَلِّمُ فِي الْمَدْرَسَةِ

LESSON - 9

مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

Who is in washroom? The boy in the washroom	حمام میں کون ہے؟ حمام میں لڑکا ہے	مَنْ فِي الْحَمَّامِ؟ الْوَلَدُ فِي الْحَمَّامِ
Who is in room? The girl in the room	روم میں کون ہے؟ روم میں لڑکی ہے	مَنْ فِي الْغُرْفَةِ؟ الْبِنْتُ فِي الْغُرْفَةِ
Who is in Masjid? The imam in the Masjid	مسجد میں کون ہے؟ مسجد میں امام ہے	مَنْ فِي الْمَسْجِدِ؟ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ
Who is in classroom? The student in the classroom	کلاس روم میں کون ہے؟ کلاس روم میں شاگرد ہے	مَنْ فِي الْفَصْلِ؟ التِّلْمِيذُ فِي الْفَصْلِ

LESSON - 9

مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

EXERCISE

Who is in the office?	آفس میں کون ہے؟	مَنْ فِي الْمَكْتَبِ؟
Who is in the workshop?	کارخانہ میں کون ہے؟	مَنْ فِي الْمَعْمَلِ؟
Who is in the factory?	فیکٹری میں کون ہے؟	وَمَنْ فِي الْمَصْنَعِ؟
Who is in the shop?	دکان میں کون ہے؟	مَنْ فِي الدُّكَّانِ؟
Who is in the mall?	مول میں کون ہے؟	مَنْ فِي الْمَتَّجِرِ؟
Who is in the playground?	پلے گراؤنڈ میں کون ہے؟	مَنْ فِي الْمَيْدَانِ؟
Who is in the house?	گھر میں کون ہے؟	مَنْ فِي الْمَنْزِلِ؟

LESSON - 9

مَنْ فِي الْمَدْرَسَةِ؟ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ

Who is in the restaurant?	رِسٹورنٹ میں کون ہے؟	مَنْ فِي الْمَطْعَمِ؟
Who is in the inside? And who is in the outside?	اندر کون ہے؟ اور باہر کون ہے؟	مَنْ فِي الدَّاخِلِ وَمَنْ فِي الْخَارِجِ؟

EXERCISE

الْمِهْنُ وَالْوِطَائِفُ - Profession and Job

No	English	Arabic
1	Farmer	فَلَّاحٌ
2	Mechanic	مِيكَانِيكِي

LESSON - 9

EXERCISES

3	Teacher	أُسْتَاذٌ (مُعَلِّمٌ)
4	Builder	بَنَّاءٌ (بَانِيٌ)
5	Butcher	جَزَّارٌ
6	Carpenter	نَجَّارٌ
7	Cashier	أَمِينُ الصُّدُوقِ
8	Chef	طَاهٍ
9	Cleaner	مُنْتَظِفٌ
10	Dentist	دَكْتُورُ أُسْدَانٍ

LESSON - 9

EXERCISES

11	Doctor	طَبِيبٌ
12	Electrician	عَامِلُ الْكَهْرِبَاءِ
13	Engineer	مُهَنْدِسٌ
14	Fireman	رَجُلُ الْإِطْفَاءِ
15	Flight Attendant	مُضَيِّفَةُ طَبْرَانٍ
16	Hairdresser/Barber	حَلَّاقٌ / مُصَفِّفُ شَعْرٍ
17	Cook	طَبَّاخٌ
18	Electrician	كَهْرِبَائِيٌّ

LESSON - 9

EXERCISES

19	Author	مُؤَلِّفٌ
20	Factory Worker	عَامِلُ الْبَصْنَعِ
21	Clerk	كَاتِبٌ
22	Singer	مُعَيِّنٌ
23	Home Maker	رَبَّةُ الْبَيْتِ
24	Business Man	رَجُلُ أَعْمَالٍ
25	Journalist	صَحَافِيٌّ
26	Judge	قَاضِيٌّ

LESSON - 9

EXERCISES

27	Lawyer	مُحَاوِي
28	Musician	عَازِفٌ
29	Nurse	مُمِرِّضَةٌ
30	Painter	دَكْمَانٌ
31	Photographer	مُصَوِّرٌ فَوْتُوغَرَاڤِي
32	Pilot	طَيَّارٌ
33	Plumber	سَبَاكَةٌ
34	Policeman	شُرَاطِي

LESSON - 9

EXERCISES

35	Postman	سَاعِي الْبَرِيدِ
36	Receptionist	مُوظِفِ الْإِسْتِقْبَالِ
37	Scientist	عَالِمِ الطِّبِّ
38	Secretary	سِكْرَتِيرُو (مُسَاعِدٌ)
39	Tailor	حَيَّاط
40	Technician	فَتَى
41	Waiter	نَادِلٌ
42	Welder	كَيَّامٌ



LESSON 10

www.abmbramnotes.com



LESSON - 10

مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ

English	Urdu	Arabic
What is on the chair? The cloth is on the chair	کرسی پر کیا ہے؟ کرسی پر کپڑا ہے	مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ
What is on the desk? The cup is on the desk	ڈسک پر کیا ہے؟ ڈسک پر کپ ہے	مَاذَا عَلَى الْمَكْتَبِ؛ الْكُؤُوبُ عَلَى الْمَكْتَبِ
What is in cup? The tea is in the chair	کپ میں کیا ہے؟ کپ میں چائے ہے	وَمَاذَا فِي الْكُؤُوبِ؛ الشَّاي فِي الْكُؤُوبِ
What is in the tea? The water and milk are in the tea	چائے میں کیا ہے؟ چائے میں پانی اور دودھ ہے	وَمَاذَا فِي الشَّاي؛ الْمَاءُ وَالْحَلِيبُ فِي الشَّاي
What is in the shop? There are many thing in the shop	دکان میں کیا ہے؟ دکان میں بہت ساری چیزیں ہیں	مَاذَا فِي الدُّكَّانِ؛ الْأَشْيَاءُ فِي الدُّكَّانِ
What is in the pocket? The pen is in the pocket	جیب میں کیا ہے؟ جیب میں قلم ہے	مَاذَا فِي الْجَيْبِ؛ الْقَلَمُ فِي الْجَيْبِ

LESSON - 10

مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ

Practice & exercise

Restaurant	رستورنٹ	مَطْعَمٌ
Food	غذا	الْغِذَاءُ
Bed	پانگ	السَّرِيرُ
Milk	دودھ	الْحَلِيبُ
Stream	نہر	النَّهْرُ

LESSON - 10

مَاذَا عَلَى الْكُرْسِيِّ؛ الثَّوْبُ عَلَى الْكُرْسِيِّ

Street	سُكِّي	السَّارِعُ
Car	كار	السَّيَّارَةُ
Book	كتاب	الْكِتَابُ
Note Book	نوٹ بوک	الْكَرَّاسَةُ
House	گھر	الْبَيْتُ



LESSON

11

www.abmquarantnotes.com



LESSON - 11

أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

English	Urdu	Arabic
Where did Hamid go? Hamid went to the shop	حامد کہاں گیا؟ حامد دکان پر گیا	أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ
From where Hamid came out? Hamid came out from the Mosque	حامد کہاں سے باہر نکلا؟ حامد مسجد سے باہر نکلا	مِنْ أَيْنَ خَرَجَ حَامِدٌ؟ خَرَجَ حَامِدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ
What did Hamid do? Hamid helped a poor	حامد نے کیا کیا؟ حامد نے غریب کی مدد کی	مَاذَا فَعَلَ حَامِدٌ؟ نَصَرَ حَامِدٌ فَقِيرًا

LESSON - 11

أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

Where did Hamid come? Hamid came the shop	حامد کہاں آیا؟ حامد دکان پر آیا	أَيْنَ أَتَى حَامِدٌ؟ حَامِدٌ أَتَى إِلَى الدُّكَّانِ
Where did Hamid write? Hamid wrote in the notebook	حامد نے کہاں لکھا؟ حامد نے نوٹ بوک میں لکھا	أَيْنَ كَتَبَ حَامِدٌ؟ حَامِدٌ كَتَبَ فِي الكُرَّاسَةِ
Where did Hamid keep? Hamid kept in the pocket	حامد نے کہاں رکھا؟ حامد نے جیب میں رکھا	أَيْنَ وَضَعَ حَامِدٌ؟ حَامِدٌ وَضَعَ فِي الجَيْبِ

LESSON - 11

أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

Where did Hamid lift?
Hamid lifted in the
classroom

حامد نے کہاں اٹھایا؟ حامد نے کلاس روم
میں اٹھایا

أَيْنَ رَفَعَ حَامِدٌ؟ حَامِدٌ رَفَعَ فِي الفَصْلِ

Where did Hamid
enter? Hamid entered
in the shop

حامد کہاں داخل ہوا؟ حامد دکان میں داخل
ہوا

أَيْنَ دَخَلَ حَامِدٌ؟ دَخَلَ حَامِدٌ فِي الدُّكَّانِ

LESSON - 11

انفعال (قرآن مجید) EXERCISES

حوالہ	تعداد	English	اردو	Roman	عربی	
2:8	1618	Said	کہا	Qaala	قَالَ	1
2:10	1358	Was	تھا	Kaana	كَانَ	2
2:196	537	Believed (with acceptance)	ایمان لایا	Aamana	ءَامَنَ	3
2:13	382	Know	جانا	Alima	عَلِمَ	4
2:19	340	Made	بنایا	Ja'ala	جَعَلَ	5
2:6	289	Desbelieved /Rejected	کفر کیا / انکار کیا	Kafara	كَفَرَ	6
2:71	278	Came	آیا	Jaa'a	جَاءَ	7
2:25	276	Worked/ Acted	عمل کیا	Amila	عَمِلَ	8
9:19	271	Gave	دیا	Aataa	أَعْطَى	9
2:55	271	Saw	دیکھا	Ra'aa	رَأَى	10
2:23	264	Come	آیا	Ataa	أَتَى	11
2:20	236	Washed	چاہا	Shaa'a	شَاءَ	12

LESSON - 11

EXERCISES (قرآن مجید) افعال

2:21	184	Created	پیدا کیا	Khalaqa	خَلَقَ	13
17:105	183	Revealed	انبارا	Anzala	أَنْزَلَ	14
2:10	176	Denied	جھٹلایا	Kazzaba	كَذَّبَ	15
2:23	170	Invited/ Prayed	یلایا / دعا کیا	Da'aa	دَعَا	16
2:201	166	Become Righteous	تقویٰ اختیار کیا	Ittaqaa	إِتَّقَى	17
2:143	144	Guided	ہدایت دیا	Hada	هَدَى	18
2:26	139	Intended/ Desired	ارادہ کیا	Araada	أَرَادَ	19
2:38	136	Followed	اتباع کیا	Ittaba'a	اتَّبَعَ	20
9:33	130	Sent	بھیجا	Arsala	أَرْسَلَ	21
3:81	127	Sized/ Holed	پکڑا	Akhaza	أَخَذَ	22
2:51	124	Made	بنایا	Ittakhaza	إِتَّخَذَ	23
1:5	122	Worshipped	عبادت کیا	Abada	عَبَدَ	24
2:54	110	Oppressed	ظلم کیا	Zalama	ظَلَّمَ	25

Note: For more verbs ,please refer my Book, Quranic Arabic Grammar 2nd volume, in sha Allaah

LESSON - 11

EXERCISES

Table of Past Tense - گردان فعل ماضی - التَّصْرِيفُ لِفِعْلِ الْمَاضِي

3 rd Person Male		غائب مذکر	
He did	اس نے کیا	Fa-a-la	فَعَلَ
They(both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-laa	فَعَلَا
They(all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-loo	فَعَلُوا
3 rd Person Female		غائب مؤنث	
She did	اس نے کیا	Fa-a-l-at	فَعَلَتْ
They(both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-la-taa	فَعَلَتَا
They(all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-l-na	فَعَلْنَ
2 nd Person Male		حاضر مذکر	
You did	تم نے کیا	Fa-a-l-ta	فَعَلْتَ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-a-l-tumaa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-a-l-tum	فَعَلْتُمْ
2 nd Person Female		غائب مؤنث	
You did	تم نے کیا	Fa-a-l-ti	فَعَلْتِ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-a-l-tumaa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-a-l-tunna	فَعَلْتُنَّ
1 st Person Male/Female		متکلم مذکر مؤنث	
I did	میں نے کیا	Fa-a-l-tu	فَعَلْتُ
We did	ہم سب نے کیا	Fa-a-l-naa	فَعَلْنَا



LESSON
12

www.abmduarainotes.com



LESSON - 12 PART - 1

أَيُّنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

English	Urdu	Arabic
Whose pen is this? This pen belongs to the doctor	حامد کہاں گیا؟ حامد دکان پر گیا	لِمَنْ هَذَا الْقَلَمُ؟ هَذَا الْقَلَمُ لِلطَّبِيبِ
Whose is that		لِمَنْ ذَلِكَ؟
Whose watch is that? that is watch belong to the boy	یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہ گھڑی اس لڑکے کی ہے	لِمَنْ هَذِهِ السَّاعَةُ؟ هَذِهِ السَّاعَةُ لِلوَلَدِ
Whose is that		لِمَنْ تِلْكَ؟
To whom does this dirham belongs to? This dirham belongs to Ibrahim	یہ درہم کس کا ہے؟ یہ درہم ابراہیم کا ہے	لِمَنْ تِلْكَ الدِّرَاهِمُ؟ تِلْكَ الدِّرَاهِمُ لابِراهِيمِ
To whom does that watch belongs to? That watch belongs to the boy	یہ گھڑی کس کی ہے؟ وہ گھڑی لڑکے کی ہے	لِمَنْ تِلْكَ السَّاعَةُ؟ تِلْكَ السَّاعَةُ لِلوَلَدِ

LESSON - 12 PART - 1

أَيُّنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟ ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى الدُّكَّانِ

To whom does this car belong to? The car belongs to the engineer	یہ کار کس کا ہے؟ کار انجینئر کی ہے	لِمَنْ هَذِهِ السَّيَّارَةُ؟ هَذِهِ السَّيَّارَةُ لِلْمُهَنْدِسِ
To whom does this cycle belong to?	یہ سائیکل کس کی ہے؟	لِمَنْ هَذِهِ الدَّرَاجَةُ؟

Exercise

Spoon	چمچ	الْمِلْحَقَةُ
Pan	توا	الْقَنْدُ
Cow	گائے	بَقْرَةٌ

LESSON - 12 PART - 2

كِتَابٌ مِّنْ هَذَا؟ هَذَا كِتَابٌ

English	Urdu	Arabic
Whose son is that	وہ کس کا بیٹا ہے؟	إِبْنٌ مِّنْ هَذَا؟
Who daughter is that	وہ کس کی بیٹی ہے؟	بِنْتُ مِّنْ هَذَا؟
Whose garden is that	وہ باغ کس کا ہے؟	حَدِيْقَةٌ مِّنْ هَذَا؟
Whose house is that	وہ گھر کس کا ہے	بَيْتٌ مِّنْ هَذَا؟
Whose pen is that	وہ پن کس کا ہے	قَلَمٌ مِّنْ هَذَا؟

Exercise :

kindly use old vocabulary, it will help the learners for revision for old memorised words in-sha-Aallh



LESSON

13

www.abmduarainotes.com



LESSON - 13

أَنْتِ أَيْضًا مَهْنَدِسٌ؟ لَا أَنَا طَبِيبٌ

English	Urdu	Arabic
Are you also an engineer? No, I'm a doctor	کیا آپ بھی انجینئر ہیں؟ نہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں	أَنْتِ أَيْضًا مَهْنَدِسٌ؟ لَا، أَنَا طَبِيبٌ
Are you also a teacher? yes, I'm a teacher	کیا آپ بھی استاد ہیں؟ ہاں، میں ایک استاد ہوں	أَنْتِ أَيْضًا مَعْلِمَةٌ؟ نَعَمْ أَنَا مَعْلِمَةٌ
Are you also a player? No, I'm a writer	کیا آپ بھی ایک کھلاڑی ہیں؟ نہیں، میں ایک مصنف ہوں	أَنْتِ أَيْضًا لَاعِبٌ؟ لَا أَنَا كَاتِبٌ
Are you also a research scholar? No, I'm a director/manager	کیا آپ بھی ریسرچ اسکالر ہیں؟ نہیں، میں ایک ڈائریکٹر / مینیجر ہوں	أَنْتِ أَيْضًا بَاحِثٌ؟ لَا أَنَا مُدِيرٌ
Are you also a watchman? No, I'm a seller	کیا آپ بھی چوکیدار ہیں؟ نہیں، میں بیچنے والا ہوں	أَنْتِ أَيْضًا حَارِسٌ؟ لَا أَنَا بَائِعٌ
Are you also a byer? No, I'm a seller	کیا آپ بھی بائیر ہیں؟ نہیں، میں بیچنے والا ہوں	أَنْتِ أَيْضًا مُشْتَرِيٌّ؟ لَا أَنَا بَائِعٌ

Exercise : kindly use old vocabulary, it will help the learners for revision for old memories words in-sha-Aallh

LESSON - 13

EXERCISES

Professional and Job - الْبِهْنِ وَالْوَهَائْفُ

No	English	Arabic
1	Farmer	فَلَّاحٌ
2	Mechanic	مِيكَانِيكِي
3	Teacher	أُسْتَاذٌ (مُعَلِّمٌ)
4	Builder	بِنَّاءٌ (بَانِي)
5	Butcher	جَزَّارٌ
6	Carpenter	نَجَّارٌ
7	Cashier	أُمِينُ الصُّنْدُوقِ

LESSON - 13

EXERCISES

8	Chef	طَاهٍ
9	Cleaner	مُنْتَظِفٌ
10	Dentist	دَكْتُورُ أَسْنَانٍ
11	Doctor	طَبِيبٌ
12	Electrician	عَامِلُ الْكَهْرُبَاءِ
13	Engineer	مُهَنْدِسٌ
14	Fireman	رَجُلُ الْإِطْفَاءِ
15	Flight Attendant	مُضَيِّفَةُ طَيَّرَانٍ

LESSON - 13

EXERCISES

16	Hairdresser/Barber	حَلَّاقٌ / مُصَفِّفٌ شَعْرٍ
17	Cook	طَبَّاحٌ
18	Electrician	كَهْرَبَائِعِيٌّ
19	Author	مُؤَلِّفٌ
20	Factory Worker	عَامِلُ التَّصْنِيعِ
21	Clerk	كَاتِبٌ
22	Singer	مُغَنِّيٌّ
23	Home Make	رَبَّةُ الْبَيْتِ

LESSON - 13

EXERCISES

24	Business Man	رَجُلُ أَعْمَالٍ
25	Journalist	صَحَافِيٌّ
26	Judge	قَاضِيٌّ
27	Lawyer	مُعَاوِنٌ
28	Musician	عَارِفٌ
29	Nurse	مُتَرَبِّطَةٌ
30	Painter	كَهَّانٌ
31	Photographer	مُصَوِّرٌ فَوْتُوغْرَافِيٌّ

LESSON - 13

EXERCISES

32	Pilot	طَيَّارٌ
33	Plumber	سَبَّاكَةٌ
34	Policeman	شُرْطِيٌّ
35	Postman	سَّاعِي الْبُرُودِ
36	Receptionist	مُوظَّفُ الْإِسْتِقْبَالِ
37	Scientist	عَالِمُ الطِّبِّ
38	Secretary	سَكْرَتِيْرٌ (مُسَاعِدٌ)

LESSON - 13

EXERCISES

39	Tailor	خَيَّاط
40	Technician	فَتَى
41	Waiter	كَادِلْ
42	Welder	كَيَّام



LESSON
14

www.abmgramnotes.com



LESSON - 14

مَا هَذَا؟ هَذَا جِسْمٌ

English	Urdu	Arabic
What is this? This is a body	یہ کیا ہے؟ یہ ایک جسم ہے	مَا هَذَا؟ هَذَا جِسْمٌ
What is this? This is a head	یہ کیا ہے؟ یہ ایک سر ہے	مَا هَذَا؟ هَذَا رَأْسٌ
What is this? This is a hair	یہ کیا ہے؟ یہ بال ہیں	مَا هَذَا؟ هَذَا شَعْرٌ
What is this? This is a face	یہ کیا ہے؟ یہ ایک جسم ہے	مَا هَذَا؟ هَذَا وَجْهٌ
What is this? This is a eye	یہ کیا ہے؟ یہ ایک چہرہ ہے	مَا هَذَا؟ هَذَا عَيْنٌ
What is this? This is a nose	یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناک ہے	مَا هَذَا؟ هَذَا أَنْفٌ

LESSON - 14

EXERCISES

الأعضاء البشريَّة انسان کے اعضاء Human Organs

Sha'ar / شَعْرٌ
Hair / بال



Ra's / رَأْسٌ
Head
سر



Ain / عَيْنٌ
Eye
آنکھ



Waj'a / وَجْهٌ
Face / چہرہ



LESSON - 14

EXERCISES

Fa, فم /
Mouth / منه



Anf /
Nose / ناك



Uzn /
Ear / كان



Sin /
Tooth /
دانت



Lisaan /
Tongue /
زبان



Shafatun /
Lips / هونث



LESSON - 14

EXERCISES

Khad/حَدّ
Cheek/گال



ذِقْنُ

Diq

Chin/تھوڑی



Sharib/شَارِبْ
Mustache/مونچھ



Lihyah/لِحْيَةُ

Beard

دارڑھی



Hajib/حَاجِبْ
Eyebrow



Jab'ha/جَبْهَةٌ
Forehead/پیشانی



LESSON - 14

EXERCISES

Zira/ذِرَاعُ
Arm/بازو



كف

Kaff
Palm/هتھیلی



Yad/يَدُ
Hand/ہاتھ



Mirq/مِرْفَقُ
Elbow
کھنٹی



Surrah /سُرَّرَةٌ
Navel
ناف



Sadr /صَدْرُ
Chest /سینہ



LESSON - 14

EXERCISES

Qalb / قَلْبُ
Heart / دل



Mi'dah / مَعِدَّة
Stomach / معدة



Dam / دَم
Blood / خون




Mukh / مَخ
Brain / دماغ



Fakhiz / فَخِيز
Thigh / ران



Rukhbah / رُكْبَة
Knee / گھٹنے



LESSON - 14

EXERCISES

Aqib/عَقِبْ
Heel/ايرھي



كَعْبْ

Ka'b

Ankle/كعنه



Qadam/قَدَمُ
Foot/پاؤں



Rijl/رِجْلُ

Leg

بیر



Isba /إِصْبَعُ

Finger

انگلی



Saaq /سَاقُ

Shin /پنڈلی





LESSON 15



www.abmdukaanotes.com

LESSON - 15

EXERCISES

What are this things in house	گھر میں کیا چیزیں ہیں؟	مَا هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي الْبَيْتِ؟
English	Urdu	Arabic
Iron	استری	الْحِكْوَاةُ
Fridge	فریج	الْعَلَّاجَةُ
Water color	واٹر کالر	الْبَرَادَةُ
A/C-Air Condition	اے سی	الْمُكَيِّفُ
Fan	فان	الْمِرْوَحَةُ
Light	لائٹ	إِلْبَصْبَاحُ
Washing Machine	واشنگ مشین	الْعَسَّالَةُ
Coffee	کافی	الْقَهْوَةُ
Window	کھڑکی	الْكَافِئَةُ
Small Cup	پیال	الْفُنْجَانُ
Big Cup	پیالہ	الْكُوبُ
Kitchen	باورچی خانہ	الْمَطْبَخُ
Bedroom	بیڈروم	غُرْفَةُ النَّوْمِ
Washroom	حمام	حَمَّامٌ

LESSON - 15

EXERCISES

Wall	دیوار	حَائِطٌ
Floor	فرش	طَائِفٌ
Ceiling	(اندرونی) چھت	سَقْفٌ
Roof	(بیرونی) چھت	سَطْحٌ
Watch	گھڑی	السَّاعَةُ
Pencil	پنسل	قَلَمُ رِصَاصٍ
Scissor	چینیچی	مِقْصٌ
Plate	رکابی	طَبَقٌ
Toothbrush	ٹوٹھرش	فُرْشَاةُ اَسْنَانٍ
Fork	کانٹا	شَوْكَةٌ
Jam	جام	مَعْجُونٌ
Table	ٹیبیل	طَاوَلَةٌ
House	گھر	سَكْنٌ
Phone	فون	هَاتِفٌ
News Paper	اخبار	صَحِيفَةٌ
Tea Kettle	کتیل	غَلَايَةُ شَايٍ

LESSON - 15

EXERCISES

Dipper	ڈیپر	مِعْرَفَةٌ
Oven (Gas Oven /Eclectic Oven)	کوکر، گاس اُون / الیکٹریک اُون	بُوْتَا جَاز (فُرْنُ غَازِي او كَهْرَبَائِي)
Kitchen Shelf	بادرچی خانے کے شیف	رَفُّ الْمَطْبَإِخِ
Vacuum Cleaner	ویکیوم کلیئر	مِكَدَسَةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ
Gas Stove or Electric Stove	سٹو / چولہا گیاس کا چولہا / الیکٹریک کا چولہا	مَوْقِدٌ كَهْرَبَائِي او غَازِي



LESSON
16

www.abmgramnotes.com



LESSON - 16

مَا هَذَا الْكَوْنُ؟

What is this world? This world is creation of Allah	یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کہ پیدا کردہ ہے	مَا هَذَا الْكَوْنُ؟ هَذَا الْكَوْنُ مَخْلُوقُ اللَّهِ
English	Urdu	Arabic
Mountain	پہاڑ	جَبَلٌ
Desert	صحرا	صَحْرَاءُ
Island	جزیرہ	جَزِيرَةٌ
Beach of River	تَیْبَعٌ	شَاطِئُ
Garden	باغ	حَدِيقَةٌ
Flower	پھول	زَهْرٌ
Trees	درخت	شَجَرَةٌ
Forest	جنگل	غَابِيَةٌ
Sky	آسمان	سَّمَاءٌ
Sun	سورج	شَمْسٌ
Star	ستارہ	نَجْمٌ
Moon	چاند	قَمَرٌ
Stars	ستارے	نَجْمَاتٌ
Earth	زمین	أَرْضٌ

LESSON - 16

EXERCISES

EXERCISES

What is this?	یہ کیا ہے؟	مَا هَذَا؟
Who created?	کس نے پیدا کیا؟	مَنْ خَلَقَ؟
What is the target?	ہدف (مقصد) کیا ہے؟	مَاذَا الْهَدَفُ؟
Why?	کیوں؟	لِمَاذَا؟
What is the benefit of sun	سورج سے کیا فائدہ ہے؟	مَا الْفَائِدَةُ مِنَ الشَّمْسِ؟



LESSON

17



LESSON - 17

متی، کب، When

English	Urdu	Arabic
EXERCISES:1		
When will you come?	آپ کب آؤ گے؟	متی تَأْتِي؟
When will he go?	وہ کب جائے گا؟	متی يَذْهَبُ؟
When will he come out?	وہ کب نکلے گا؟	متی يَخْرُجُ؟
When will you make him to travel?	آپ اسے کب سفر کرواؤ گے؟	متی تُرْجِلُ؟
When will you travel?	آپ کب سفر کرو گے؟	متی تُسَافِرُ؟
When will you enter?	آپ کب داخل ہوں گے؟	متی تَدْخُلُ؟
When will you wake up?	آپ کب بیدار ہو گے؟	متی تَسْتَيْقِظُ؟
When will you swim?	آپ کب تیریں گے؟	متی تَسْبَحُ؟
When will you play?	آپ کب کھیلیں گے؟	متی تَلْعَبُ؟
When will you write?	آپ کب لکھیں گے؟	متی تَكْتُبُ؟
When will you read?	آپ کب پڑھیں گے؟	متی تَقْرَأُ؟

LESSON - 17

متی، کب، When

When will you memories/protect/safe?	آپ کب یاد کریں گے؟ / حفظ / حفاظت	متی تَحْفَظُ؟
When did this happen?	یہ کب ہوا؟	متی وَقَعَ هَذَا؟
When did this occur?	یہ کب ہوا؟	متی حَدَثَ هَذَا؟
When was this book written?	یہ کتاب کب لکھی گئی تھی؟	متی كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ؟
When was he born?	وہ کب پیدا ہوا تھا؟	متی وُلِدَ؟
When did he die?	وہ کب مرا تھا	متی تُوْفِيَ؟
When was this like that?	ایسا کب تھا؟	متی كَانَ هَذَا؟
When were they?	وہ کب تھے؟	متی كَانُوا؟
When did she go?	وہ کب گئی؟	متی ذَهَبَتْ؟
When did she do?	اس نے کب کیا؟	متی فَعَلَتْ؟
When did he say?	اس نے کب کہا؟	متی قَالَ؟
When did they do?	انہوں نے یہ کب کیا؟	متی فَعَلُوا؟

LESSON - 17

متی، کب، When

EXERCISES:2

I will come in the morning	میں صبح آؤں گا	أَنَا آتِي فِي النَّهَارِ
In the night	رات میں	فِي اللَّيْلَةِ
The day after tomorrow	پرسوں (آنے والا)	بَعْدَ غَدٍ
Yesterday	پچھلا دن	أَمْسٍ
Last night	گزشتہ رات	الْبَارِحَةَ
Day before yesterday	پرسوں (گزر رہا ہوا)	قَبْلَ الْأَمْسِ
Today	آج	الْيَوْمِ
Tomorrow	کل	غَدًا
Every night	ہر رات	كُلَّ اللَّيْلَةِ
In the morning	صبح کے وقت	فِي الصُّبْحِ
In the early morning	صبح سویرے	فِي الصُّبْحِ
In the darkness	اندھیرے میں	فِي الظُّلَمِ
In the last week	گزشتہ ہفتے میں	فِي الْأَسْبُوعِ الْمَاضِي
In the coming week	آنے والے ہفتے میں	فِي الْأَسْبُوعِ الْقَادِمِ
In the last month	گزشتہ مہینے میں	فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي
In the last year	گزشتہ سال میں	فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ

LESSON - 17

متی، کب، When

In the next year	آنے والے سال میں	فِي السَّنَةِ الْقَادِمَةِ
After Zohar	ظہر کے بعد	بَعْدَ الظُّهْرِ
After Asr	عصر کے بعد	بَعْدَ العَصْرِ
After Fajar	فجر کے بعد	بَعْدَ الفَجْرِ
After Maghreb	مغرب کے بعد	بَعْدَ المَغْرِبِ
After Isha	عشاء کے بعد	بَعْدَ العِشَاءِ
In the time of Tahajjud	تہجد کے وقت میں	فِي التَّهَجُّدِ
After sun rise	سورج طلوع ہونے کے بعد	بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
After sun set	سورج غروب ہونے کے بعد	بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
Night	رات	لَيْلٍ
Nights	راتیں	لَيَالٍ
Day	دن	يَوْمٍ
Days	دنوں	أَيَّامٍ
Year	سال	سَنَةٍ
Years	سالوں	سَنَوَاتٍ

LESSON - 17



LESSON - 17

Portion of day & time

Portions of Day & Time	دن اور وقت کی تقسیم	Aqsaamul Yaumi waz-Zaman	أَقْسَامُ الْيَوْمِ وَالزَّمَنِ
Early	جلدی	Mubakkir	مُبَكِّرٌ
Late	تاخیر	Muta'akhir	مُتَأَخِّرٌ
Day time	دن میں	Fin nahaar	فِي النَّهَارِ
At night	رات میں	Fil lail	فِي اللَّيْلِ
Today	اس دن	Hazal yaum	هَذَا الْيَوْمِ
Tonight	اس رات	Hazihil lail	هَذِهِ اللَّيْلَةِ
All day	دن بھر	Kullul yaum	كُلُّ الْيَوْمِ
All night	رات بھر	Kullul lailah	كُلُّ اللَّيْلَةِ
Tomorrow	کل	Ghadan	غَدًا
Yesterday night	کل کی رات	Albaarihah	الْبَارِحَةَ
Last night	گزری ہوئی رات	Al-lailatul maaziyah	الْلَّيْلَةُ الْمَاضِيَةُ
Coming night	آئی والی رات	Al-lailatul qaadimah	الْلَّيْلَةُ الْقَادِمَةُ

LESSON - 17

Portion of day & time

Every day	ہر دن	Kullu yaum	كُلُّ يَوْمٍ
Every night	ہر رات	Kullu lailah	كُلُّ اللَّيْلَةِ
Dawn	فجر	Alfjr	الْفَجْرُ
Morning	صبح	As-sabaah	الصَّبَاحُ
Before noon	ظہر سے پہلے	Qablaz zuhar	قَبْلَ الظُّهْرِ
Noon	ظہر	Az-zuhar	الظُّهْرُ
Afternoon	ظہر کے بعد	Ba'daz zuhar	بَعْدَ الظُّهْرِ
Sunset	غروب آفتاب	Ghurobush shams	غُرُوبِ الشَّمْسِ
Evening	شام	Almasaa	الْمَسَاءُ
Night	رات	Allail	اللَّيْلُ
Midnight	آدھی رات	Muntasiful lail	مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ
In the morning	صبح میں	Fis-sabaah	فِي الصَّبَاحِ
Early-morning	صبح سویرے	As-sabaahul baakir	الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ
In the evening	شام میں	Fil masaa	فِي الْمَسَاءِ
In a week	ہفتہ میں	Fi usboo	فِي اسْبُوعِ
Last week	گزر رہا ہوا ہفتہ	Al-usbo'ul-maazi	الْأُسْبُوعِ الْمَاضِي

LESSON - 17

Portion of day & time

Nest week	آنے والا ہفتہ	Al-usbo'ul-qaadim	الْأُسْبُوعُ الْقَادِمُ
In a month	مہینے میں	Fi shahr	فِي شَهْرٍ
Last month	گزرا ہوا مہینہ	Ash-shahrul maazi	الشَّهْرُ الْمَاضِي
Next month	آنے والا مہینہ	Ash-shahrul taali	الشَّهْرُ الْتَالِي
In a year	سام میں	Fi sanah	فِي سَنَةٍ
Last year	گزرا ہوا سال	As-sanatul maaziyah	السَّنَةُ الْمَاضِيَّةُ
Next year	آنے والا سال	As-sanatul qaadimah	السَّنَةُ الْقَادِمَةُ
Century	صدی	Qarn	قَرْنٌ

LESSON - 17

Day & night

The Days & Time	دن اور اوقات	Al-ayyaam wal-auqaat	الْأَيَّامُ وَالْأَوْقَاتُ
Sunday	اتوار	Yaumul-Ahad	يَوْمُ الْأَحَدِ
Monday	پير	Yaumul-Isnain	يَوْمُ الْإِسْنَيْنِ
Tuesday	منگل	Yaumus-Sulaasaa	يَوْمُ الْفُلَّاتَاءِ
Wednesday	چارشنبه	Yaumul-Arbi'aa	يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ
Thursday	جمعرات	Yaumul-Khamees	يَوْمُ الْخَمِيسِ
Friday	جمعہ	Yaumul-Juju'ah	يَوْمُ الْجُمُعَةِ
Saturday	ہفتہ	Yaumus-Sabt	يَوْمُ السَّبْتِ

LESSON - 17

Day & night


Today	آج	Al-Yaum	الْيَوْمَ
Yesterday	کل	Al-Ams	الْأَمْسَ
The day before yesterday	گزرہوا پر سوں	Qablal Ams	قَبْلَ الْأَمْسِ
Tomorrow	آنے والا کل	Ghadan/ bukrah	عَدَا الْبُكْرَةَ
The day after tomorrow	آنے والا پر سوں	Ba'da bukrah	بَعْدَ الْبُكْرَةَ
The day after tomorrow	پر سوں	Ba'da Ghad	بَعْدَ غَدًا
Year	سال	Sanah/ Sanawaath	سَنَةً-سَنَوَاتٍ
Morning	صبح	Subh/ Subaah	صُبْحُ صَبَاحٍ
Night	رات	Lail / Layaali	لَيْلٍ- لَيَالِي
Day	دن	Yaum / Ayyaam	يَوْمٍ- أَيَّامٍ

LESSON - 17

The months

The Months	مہینے	Ash-Shuhoor	الشُّهُورُ	The Months	الشُّهُورُ
January	جنوری	Yanaayir	يَنَآيِرُ	Muharram	مُحَرَّم
February	فروری	Fabraaer	فَبْرَآئِرُ	Safar	صَفَر
March	مارچ	Maaris	مَآرِسُ	Rabi-al-Awwal	رَبِيعَ الْأَوَّلِ
April	اپریل	Abreel	أَبْرَيْلُ	Rabi-al-Akhir	رَبِيعَ الْآخِرِ
May	مئی	Maayu	مَآيُو	Jamadil-awwal	جَمَادَى الْأُولَى
June	جون	Yuniyu	يُونِيُو	Jamadil-Aakhir	جَمَادَى الْآخِرَةَ
July	جولائی	Yuliyu	يُولِيُو	Rajab	رَجَب
August	آگست	Aghastus	أَغَسْطُسُ	Sha'abaaan	شَعْبَانَ
September	ستمبر	Sabtambar	سَبْتَمَبْر	Ramdhan	رَمَضَانَ
October	اکتوبر	Aktoobar	أَكْتُوْبَر	Shawwaal	شَوَّال
November	نومبر	Nufimbar	نُوفِمَبْر	Dhu-al-qa'dah	ذُو الْقَعْدَةِ
December	ڈسمبر	Disambar	دِيسَمَبْر	Dhu-al-Hijjah	ذُو الْحِجَّةِ

الكلمات العربية



Inside the Airport

ایئر پورٹ کے اندر

داخل المطار

ENGLISH	اردو	ROMAN	عربي
Where is the toilet please?	برائے مہربانی بیت الخلاء کہاں ہے (بتلائیے)؟	Aina dauratul miyaaah min fazlik?	أَيْنَ دَوْرَةُ الْمَيْوَاهِ مِنْ فَضْلِكَ؟
Airport.	ہوائی اڈہ	Al-mataar	الْمَطَارُ
The plane.	جہاز	At-taerah	الطَّائِرَةُ
Flight.	ہوائی سفر	Rihlatu tayaraan	رِحْلَةُ طَيْرَانٍ
Luggage.	سامان سفر (بجٹے)	Amti'atus-safar (al-hqaaeb)	أَمْتِيعَةُ السَّفَرِ (الْحَقَائِبُ)
Baggage.	سامان	Al-amti'atu	الْأَمْتِيعَةُ
Hand bag.	ہاتھ والا بجٹے	Haqeebatu yad (shantatu yad)	حَقِيبَةُ يَدٍ (شَنْطَةُ يَدٍ)
Bag.	بجٹے	Shantah (Haqeebah)	شَنْطَةُ (حَقِيبَةُ)
Arrival.	پہنچنا	Al-wusool	الْوُصُولُ
Departure.	نکلنا	Al-raheel\ al-mughaadarah	الرَّحِيلُ / الْمَغَادَرَةُ
Luggage shelf.	خانیہ سامان	Rafful haqaaeb (makhzanul haqaaeb)	رَفُّ الْحَقَائِبِ (مَخْرَزُنُ الْحَقَائِبِ)
Plane window.	ہوائی جہاز کی کھڑکیاں	Naafizatul-taerah	نَافِذَةُ الطَّائِرَةِ
Tray meal.	ایک وقت کا کھانا	Al-wajbah	الْوَجْبَةُ
Emergency exit.	بہگامی جائے خروج ایمرجنسی راستہ	Babut-twaari'	بَابُ الطَّوَارِئِ
No smoking.	سگریٹ نوشی ممنوع ہے	Mamnoo`ut tadhkeen	مَمْنُوعُ التَّدْخِينِ

الكلمات العربية

Departure lounge.	انتظار گاہ	Saalatul mughaadarah (Saalatur raheel)	صَالَةَ الْمُغَادَرَةِ (صَالَةُ الرَّحِيلِ)
Flight number.	ہوائی جہاز کا نمبر	Raqamur rihlah (raqamu rihlatit tayaraan)	رَقْمُ الرِّحْلَةِ (رَقْمُ رِحْلَةِ الطَّيْرَانِ)
The plane will take off soon.	ابھی ہوائی جہاز پرواز کرے گا۔	Saufa tuqli`ut taaeratu haalaa	سَوْفَ تُقْلِعُ الطَّيْرَةَ خَالًا
Have a good trip.	میں آپ کے اچھے سفر کی تمنا کرتا ہوں	Atamanna laka rihlatan tayyibah Saecedah	أَتَمَنَّى لَكَ رِحْلَةً طَيِّبَةً سَعِيدَةً
Fasten your seat belt.	اپنا سیٹ بلت لگا لیجیے	Irbit hizaamak	إِرْبِطْ حِزَامَكَ
Ticket.	تکٹ	tazkirah	تَذْكِرَةٌ
Runway.	ہوائی جہاز کی اتران کا راستہ	Mudarrajut taeraat (mahbitut taeraat)	مُدْرَجُ الطَّيْرَاتِ (مَهْبِطُ الطَّيْرَاتِ)
Landing.	ہوائی جہاز اترنا۔	Hubootut taerah	هُبُوطُ الطَّيْرَةِ
Take off.	پرواز	Al-iqlaa`au	الْإِقْلَاعُ
Seat.	نشہ	Al-maq`ad	الْمَقْعَدُ
Crew.	ہوائی جہاز کا عملہ	Taaqimut taerah	طَائِفَةُ الطَّيْرَةِ
Pilot.	جہاز ران / پائلٹ	Qaaedatut taerah \ rubbaan \ kaabitan	قَائِدُ الطَّيْرَةِ / رُبَّانُ / كَابِتَانُ

الكلمات العربية



In the town

شہر میں

في المدينة

ENGLISH	اردو	ROMAN	عربي
Street.	سڑک	Ash-shaari'au	السَّارِع
Shop.	دکان	Ad-dukkaan	الدُّكَّان
Traffic light.	ٹرافک لائٹ	Isharatul muroor	إِشَارَةُ الْمُرُور
Pavement / Foot path	فٹ پات	Ar-raseef	الرَّصِيفُ
Car.	کار	sayyarah	سَيَّارَةٌ
Taxi.	کرایہ کی کار	Sayyaratul ujah	سَيَّارَةُ الْأَجْرَةِ
Cafe.	(چائے کی) ہوٹل	Maq'ha	مَقْهَى
Restaurant.	ہوٹل	Mat'am	مَطْعَمٌ
Bus stop.	بس اسٹاپ	Mahattatul utobees	مَحْطَّةُ الْأَتُوبِيِّس
Hotel.	ہوٹل	funduq	فُنْدُقٌ
Bridge.	پل	Jisrun\ kubri	جِسْرٌ / كُبْرِي
Pedestrian crossing.	زیرا کراسنگ (پیدل چلنے والوں کی کراسنگ)	Uboorul mushaah	عُبُورُ الْمَشَاةِ
Letter box.	ڈاک کا ڈبہ	Sundooqul bareedi	صُنْدُوقُ الْبَرِيدِ
Railway station.	ریلوے اسٹیشن	Mahattatul qitaar	مَحْطَّةُ الْقِطَارِ

الكلمات العربية

Pedestrians.	پیدل چلنے والے	Al-mushaatu	الْمُشَاةُ
City center.	شہر کے بیچ	Wasatul madinah	وَسَطُ الْمَدِينَةِ
Museum.	عجائب گھر	Mut'haf	مُتْحَفٌ
Shopping center / mall.	تجارتی مرکز	Al-markazut tijari	الْمَرْكَزُ التِّجَارِيّ
University.	یونیورسٹی	Al-jamiah	الْجَامِعَةُ
Zoo.	چڑیا گھر	Hadeeqatul hayawaanaat	حَدِيقَةُ الْحَيَوَانَاتِ
Apartment block.	اپارٹمنٹ کی عمارت	Emaaratun sakaniiyah	عِمَارَةٌ سَكْنِيَّةٌ
Excuse me, could you Tell me the way to... please?	معذرت خواہ ہوں، کیا مہربانی ایسا راستہ بتا سکتے ہیں جو مجھے ---- تک پہنچا دے۔	Ma'ziratan, hal tukhbiruni anit tareeqil mu'addi ila... min fazlik?	مَعْدِرَةٌ، هَلْ تُخْبِرُنِي عَنِ الطَّرِيقِ الْمُوَدَّى إِلَى... مِنْ فَضْلِكَ؟
I would like to know.	میں جانا چاہتا ہوں۔	Ureedu an a'rifa	أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ
Where is the police station?	پولیس اسٹیشن کہاں ہے؟	Aina qismush shurtah?	أَيْنَ قِسْمِ الشُّرْطَةِ؟
Where is the tourist office?	سیر و سیاحت کا دفتر کہاں ہے؟	Ainaal maktabus siyaahah	أَيْنَ الْمَكْتَبِ السِّيَاحَةِ؟
Can i get there by bus?	کیا میں وہاں بذریعہ بس جا سکتا ہوں؟	Hal yumkinu an azhaba ila hunaaka bil utoobees?	هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ بِالْأُتُوبِيسِ؟
Where is the nearest bus stop?	قریب ترین بس اسٹاپ کہاں ہے؟	Aina aqrabu mauqifin lil utoobees	أَيْنَ أَقْرَبِ مَوْقِفٍ لِالْأُتُوبِيسِ؟
Is there a public toilet nearby?	کیا یہاں قریب میں بیت الخلاء ہیں؟	Hal yujadu dauraatu miyahin qariban min huna?	هَلْ يُوْجَدُ دَوْرَاتُ مِيَاهٍ قَرِيبًا مِنْ هُنَا؟
Where can I get a taxi?	مجھے کرایہ کی کار کہاں مل سکے گی؟	Aina yumkinu an ajida sayyarata ujah?	أَيْنَ يُمَكِّنُ أَنْ أَجِدَ سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ؟
Take me to...please.	مجھے امید ہے کہ تم مجھے ----- تک پہنچا دو گے۔	Arju an toosilni ila....	أَرْجُو أَنْ تُوسِلَنِي إِلَى..
How much will it cost?	کرایہ کتنا ہوا؟	Kamil ujah?	كَمِ الْأُجْرَةِ؟

الكلمات العربية



The Train	اردو	ریل گاڑی	القطار	9
ENGLISH	اردو	ROMAN	عربی	
Shop window.	انٹرفیس کی دکان	Waajihatul mahal	وَأَجْهَةٌ الْمَحَلِّ	
Lamp post.	لیمپ پوسٹ	Umoodu inarah	عُمُودُ إِنَارَةٍ	
dust bin.	کوڑا دان	Sallatu muhmalaat	سَلَّةُ مُهْمَلَاتٍ	
The old town.	پرانہ شہر	Al-madeenatul qadeemah	الْمَدِينَةُ الْقَدِيمَةُ	
He travels	وہ سفر کرتا ہے / کرے گا	Yusaafiru	يُسَافِرُ	
By train.	بذریعہ ریل گاڑی	Bilqitaar	بِالْقِطَارِ	
First class.	فرسٹ کلاس	Ad-darjatul oola	الْدَّرَجَةُ الْأُولَى	
Carriage.	ٹرائی	Arabatul qitaar	عَرَبَةُ الْقِطَارِ	
Fare.	کرایہ	Ujratun	أَجْرَةٌ	
Ticket.	ٹکٹ	Tazkiratun	تَذْكِرَةٌ	
Platform.	پلاٹ فام	Raseeful qitaar	رَصِيفُ الْقِطَارِ	
He reaches	وہ پہنچتا ہے / پہنچے گا	Yasilu	يَصِلُ	
Porter.	قلی	Al-hammaal	الْحَمَّالُ	
Delay.	تاخیر کرتا ہے / کرے گا	Yata'akhkharu	يَتَأَخَّرُ	
Suitcase.	سفر کا بستہ	Haqeebatus safar	حَقِيبَةُ السَّفَرِ	

تعاہیر مفیدہ

Useful expressions	مفیدہ تعاہیرات	تعاہیر مفیدہ	02
Thank you!	آپ کا شکر یہ	Shukran lak	شُكْرًا لَكَ ۱
Please!	برائے مہربانی	Min fazlik	مِنْ فَضْلِكَ ۲
Excuse me!	معاف کیجیے	Saamihni	سَامِحْنِي ۳
All right!	ٹھیک ہے	Tayyib	طَيِّبٌ ۴
That's right	ٹھیک ہے	Hasanan	حَسَنًا ۵
You are welcome.	خوش آمدید	Ahlan bik (ahlan wa sahlan)	أَهْلًا بِكَ (أَهْلًا وَسَهْلًا) ۶
I'm sorry!	مجھے افسوس ہے / میں معذرت خواہ ہوں۔	Aasif	أَسِيفٌ ۷
Never mind!	کوئی بات نہیں	Baseet	بَسِيطٌ (لَا يُهِمُّكَ) ۸
Perhaps.	کبھی کبھار	Rubbama	رُبَّمَا ۹
Excuse me	میں معافی مانگتا ہوں۔	Afwan	عَفْوًا ۱۰
I hope so.	میں امید کرتے ہوں	Aamalu zaalik	أَمَلٌ ذَلِكَ ۱۱
Of course.	بے شک	Bittab'a\ tab'an	بِالطَّبَعِ / طَبَعًا ۱۲
Sure (Surely).	یقیناً (یقین سے)	Bitta'keed	بِالْتَأَكِيدِ ۱۳
Right now.	ابھی	Haalan / Al-aan	حَالًا / الْآنَ ۱۴
As usual.	کی طرح	Kal'aadah \Aadatan kalmu'taad	كَالْعَادَةِ / عَادَةً / كَالْمُعْتَادِ ۱۵
In general.	عام طور پر	Alal umoom	عَلَى الْعُمُومِ ۱۶
At least.	کم از کم	Alal aqal	عَلَى الْأَقَلِّ ۱۷
Not at all.	بالکل	Itlaaqan	إِطْلَاقًا ۱۸
For a while.	تھوڑی دیر کے لیے	Li fatratim maa	لِفَتْرَةٍ مَّا ۱۹
By the way.	کسی بھی حال میں	Ala ayyi haal	عَلَى أَيِّ حَالٍ ۲۰
Just a minute.	ایک منٹ	Daqeeqah waahidah	دَقِيقَةً وَاحِدَةً ۲۱
A little bit.	تھوڑا	Qaleelan	قَلِيلًا ۲۲
If necessary.	اگر ضروری ہو تو	Iza kaana zurooriyyan	إِذَا كَانَ ضَرُورِيًّا ۲۳

تعاير مفيدة

Not so fast.	اس رفتار سے نہیں	Laisa bihaazihis sur'ah	لَيْسَ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ	۲۴
Not long ago.	کچھ دیر پہلے	Laisa min zamanin ba'eed	لَيْسَ مِنْ زَمَنِ بَعِيدٍ	۲۵
Side by side.	پہلو بہ پہلو	Jamban ila jambin	جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ	۲۶
More and more.	زیادہ سے زیادہ	Aksar fa aksar	أَكْثَرُ فَأَكْثَرُ	۲۷
No one else.	کوئی دوسرا نہیں	Ma min ahadin aakhar	مَا مِنْ أَحَدٍ آخَرَ	۲۸
This and that.	یہ اور وہ	Haaza wa zaak	هَذَا وَذَلِكَ	۲۹
That's too bad.	برا انجام ہوگا۔	Sayyi'un lil-ghaayah	سَيِّئٌ لِلْغَايَةِ	۳۰
At last.	آخر کار	Akheeran	أَخِيرًا	۳۱
On his way.	راستہ میں	Fi tareeqihi	فِي طَرِيقِهِ	۳۲
On the way back.	واپسی کی راہ میں	Fi tareeqil audah	فِي طَرِيقِ الْعُودَةِ	۳۳
Each other.	ایک دوسرے کے لیے	Ba'zuhum liba'z	بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ	۳۴
Per person.	ایک آدمی کے لیے	Lish-shakhsil wahid	لِلشَّخْصِ الْوَاحِدِ	۳۵
For rent.	کرایہ کے لیے	Lil 'eejaar	لِلْإِجَارِ	۳۶
For sale.	فروخت کے لیے	Lil-bae'	لِلْبَيْعِ	۳۷
No problem. (It's not a problem).	مشکل کی بات نہیں	Maa fi mushkilah	مَا فِي مُشْكِلَةٍ	۳۸
How exciting!	یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔	Kam haaza mudhish!	كَمْ هَذَا مُدْهِشٌ!	۳۹
Watch out / Look out!	چوکنا ہو جاؤ	Intabih	إِنْتَبِهْ	۴۰
Be careful!	ہوشیار رہو	Ihzar	إِحْذَرْ	۴۱
Don't forget!	مت بھولو	La tansa	لَا تَنْسَ	۴۲
Have a seat!	بیٹھ جائیے	Tafazzal biljuloos / tafazzal ijlis	تَفَضَّلْ بِالْجُلُوسِ / تَفَضَّلْ وَاجْلِسْ	۴۳
Help me!	میری مدد کیجیے	Saa'idni	سَاعِدْنِي	۴۴
Wait for me!	میرا انتظار کیجیے	Intazirnee	إِنْتَظِرْنِي	۴۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Useful Arabic words for daily usage

روزمرہ بات چیت میں استعمال
ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے

الكلمات العربية المستخدمة
اليومية - 1

03

Optional	English	اردو	Roman	عربی	S.No
	Who are you?	آپ کون ہیں؟	Man anta?	مَنْ أَنْتَ؟	۱
	What is your name?	آپ کا نام کیا ہے؟	Masmuk?	مَا اسْمُكَ؟	۲
	Come here!	یہاں آئیے!	Ta'aal huna	تَعَالِ هُنَا	۳
	Go there!	وہاں جائیے!	Izhab hunaak	إِذْهَبْ هُنَاكَ	۴
	Where did you come from?	آپ کہاں سے آئے ہیں؟	Min aina ji't?	مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟	۵
	How are you?	آپ کا کیا حال ہے۔	Kaifa haaluk?	كَيْفَ حَالُكَ؟	۶
	Where is your home?	آپ کا گھر کہاں ہے۔	Ayna baituk?	أَيْنَ بَيْتُكَ؟	۷
	sit beside me or sit with me	میرے پاس بیٹھ جائیے۔	Ijlis indi \ udnu minni \ taqarrab ilay	إِجْلِسْ عِنْدِي / أَدْنُ مِيَّ / تَقَرَّبْ إِلَيَّ	۸
	Sit properly	اچھی طرح بیٹھیے۔	Ijlis sawiyyan	إِجْلِسْ سَوِيًّا	۹
	Make yourself comfortable	آرام سے بیٹھیے۔	Istarah	إِسْتَرِحْ	۱۰
	Make space for other to sit	کھل کر بیٹھیے۔	Tafassah fil majaalisi	تَفَسَّحْ فِي الْمَجَالِسِ	۱۱
	Where are you going?	آپ کہاں جا رہے ہیں۔	Ayna tazhab \ ayna tarooh	أَيْنَ تَذْهَبُ / أَيْنَ تَرُوحُ	۱۲
	I am thirsty	میں پیاسا ہوں۔	Ana atshaan	أَنَا عَطْشَانٌ	۱۳
	Please bring water for me	پانی لائیے۔	Jib maa' \ I'ti bil maa'	جِبْ مَاءً / ائْتِ بِالْمَاءِ	۱۴
	Bring it quickly	جلدی لائیے۔	Jib bisur'ah	جِبْ بِسُرْعَةٍ / اَعْطِي بِسُرْعَةٍ	۱۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Bring it chilled water	مجھے ٹھنڈا پانی پلائیے۔	Isqini maa'an baridan	إِسْقِينِي مَاءً بَارِدًا	۱۶
	Don't give me hot water	مجھے گرم پانی مت پلاؤ۔	La tasqini maa'an hameeman	لَا تَسْقِينِي مَاءً حَمِيمًا	۱۷
	Give me pure water	تازہ پانی پلائیے۔	Jib maa'an jayyidan\ taazijan	جِبِّ مَاءً جَيِّدًا / طَارِجًا	۱۸
	Don't eat dry bread	سوکھی روٹی مت کھائیے۔	La ta'kul khubzan jaaffan	لَا تَأْكُلْ خُبْزًا جَافًا	۱۹
	I am hungry	میں بھوکا ہوں۔	Ana jaae' \ jau' aan	أَنَا جَائِعٌ / جَوْعَانٌ	۲۰
	Please give me something to eat	مجھے کچھ کھلائیے۔	At'imni shaian	أَطْعِمْنِي شَيْئًا	۲۱
	I am full/my stomach is full.	میں سیر ہو گیا۔	Shabi'tu	شَبِعْتُ	۲۲
	Heat the water	پانی گرم کیجیے۔	Sakkhinill maa'	سَخِّنِ الْمَاءَ	۲۳
	Cool the water	پانی ٹھنڈا کیجیے۔	Barridil maa'	بَرِّدِ الْمَاءَ	۲۴
	The water has been heated	پانی گرم ہو گیا۔	Hummal maa'	حُمَّ الْمَاءَ	۲۵
	Water has been cooled.	پانی ٹھنڈا ہو گیا۔	Baridal maa'	بَرِّدَ الْمَاءَ	۲۶
	Keep quiet. may Allah have mercy on you	اللہ آپ پر رحم کرے ، چپ ہو جائیے۔	Uskut, Allahu yarhamuk	أُسْكُتْ، اللَّهُ يَرْحَمُكَ	۲۷
	Walk slowly	آہستہ چلیے۔	Hawnan hawnan\ ala rislik	هَوْنًا هَوْنًا / عَلَيَّ وَرِسْلِكَ	۲۸
	What are you reading?	آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟	Maaaza taqra'?	مَاذَا تَقْرَأُ؟	۲۹
	I am reading my lesson.	میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں۔	Aqra'au darsi	أَقْرَأُ دَرْسِي	۳۰
	Read loudly	بلند آواز سے پڑھیے۔	Iqra bi sautin aalin	إِقْرَأْ بِصَوْتٍ عَالٍ	۳۱

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	He ran away when I came.	میرے آ کر وہ بھاگ نکلا۔	Wa huwa qad farra inda ma ji'tu	وَهُوَ قَدْ فَرَّ عِنْدَ مَا جِئْتُ	۳۲
ايش انجنازك/ ايش يعملون	What is going on?	کیا ہو رہا ہے؟	Maaza ya'maloon	مَاذَا يَعْمَلُونَ	۳۳
	Don't even ask that!	وہ تو پوچھو ہی مت	Fazlan an zaalik	فَضْلًا عَنِ ذَلِكَ	۳۴
الضواب معك	You are right	آپ ٹھیک کہتے ہیں۔	Anta saaib	أَنْتَ صَابِبٌ	۳۵
أنت غلطان	It is your mistake	آپ غلطی پر ہیں۔	Innaka mukhti'un	إِنَّكَ مُخْطِئٌ	۳۶
خليك عندك/ اخلية جانبا	Set it aside	اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔	za'hu jaaniban	ضَعُهُ جَانِبًا	۳۷
	Yes, now you said it right.	جی ہاں، اب آپ نے ٹھیک کہا۔	N'am al'aan qulta sadeedan	نَعَمْ الْآنَ قُلْتَ سَدِيدًا	۳۸
	Like or as	جیسا کہ / چونکہ	Kamaa	كَمَا	۳۹
	Like that	جیسا کہ وہ۔	Kamaa huwa	كَمَا هُوَ	۴۰
	As you wish	جیسے آپ مناسب سمجھیں۔	Kama tara	كَمَا تَرِي	۴۱
	The best opinion	غالب۔	Alar-raajeh	عَلَى الرَّاجِحِ	۴۲
	At least	کم سے کم۔	Alal aqal	عَلَى الْأَقْلِ	۴۳
مماستطعت/ بیافغانك	However it may be possible	جیسے بھی ممکن ہو	Kaifa ma amkan	كَيْفَ مَا أَمْكَنَ	۴۴
	As much as possible	جتنا ہو سکے	Qadra ma amkan	قَدْرَ مَا أَمْكَنَ	۴۵
	As soon as possible	جتنی جلدی ہو سکے۔	Bi-asra' ma yumkin	بِأَسْرَعِ مَا يُمَكِّنُ	۴۶
ما بك يا رجل؟	What happen to him?	اسے کیا ہو گیا؟	Ma lahu ?	مَا لَهُ؟	۴۷

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Pleasant place	خوشگوار مقام۔	Al-makaanul mureeh	الْمَكَانُ الْمُرِيحُ	۴۸
	Be careful next time.	آئندہ احتیاط کیجیے۔	Ihtariz marratan ukhra	إِحْتَرِضْ مَرَّةً أُخْرَى	۴۹
	Don't do it again!	پھر ایسا نہ کرنا۔	La tu'ed marratan ukhra	لَا تُعِدْ مَرَّةً أُخْرَى	۵۰
	Stay away from me! get out of here!	میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔	Ibta'id an amaami	إِبْتَعِدْ عَنِ أَمَامِي	۵۱
	Come here quickly!	جلدی میرے پاس آؤ۔	Asri' ilay	أَسْرِعْ إِلَيَّ	۵۲
	This rumor is false. Or this is not the reality. Or this news is not correct.	یہ انواہ غلط ہے۔	Hazal khabru maa fish /maa shai/ maa fi haqeeqah	هَذَا الْخَبْرُ مَا فِئْنَ لَا شَيْءٍ أَمَامِي حَقِيقَةً	۵۳
	I will soon die of starvation.	عنقریب میں بھوکا مر جاؤں گا۔	Sa-amootu jau'an	سَأَمُوتُ جَوْعًا	۵۴
	My work can't be done without him.	اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔	Laštu astaghni anhu	لَسْتُ أَسْتَغْنِي عَنْهُ	۵۵
	Hold it tightly	اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔	Iqbiz alaihi jayyidan	إِقْبِضْ عَلَيْهِ جَيِّدًا	۵۶
	I am too busy in my work.	میں اپنے کام میں بہت مصروف ہوں۔	Ana mashgoolun fi amali	أَنَا مَشْغُولٌ جِدًّا فِي عَمَلِي	۵۷
	I am with you.	میں آپ کے ساتھ ہوں۔	Ana ma'ak	أَنَا مَعَكَ	۵۸
	He is unhappy with you	وہ آپ سے ناراض ہے۔	Huwa saaqitun alaik	هُوَ سَاخِطٌ عَلَيْكَ	۵۹
	How worthy is it to you?	آپ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے؟	Bikam yusaawi indak	بِكَمْ يُسَاوِي عِنْدَكَ	۶۰
	I don't know	مجھے اس کا علم نہیں ہے۔	Laisa li bihi ilm	لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ	۶۱
	I am apologizing to you or sorry.	میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔	A'taziru ilaikum	أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ	۶۲
	I regret it	مجھے اس پر افسوس ہے۔	Ana muta-assifun alaih	أَنَا مُتَأَسِّفٌ عَلَيْهِ	۶۳

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	His dealing is not good	وہ بے ادب ہے۔	Rajulun ghairu tayyib	رَجُلٌ غَيْرُ طَيِّبٍ	۶۴
	I don't like his dealing.	مجھے اس کی معاملات داری پسند نہیں۔	La uhibbu wala arza bitta'ammuli m'ahu	لَا أَحِبُّ وَلَا أَرْضُ بِاللِّعَامِلِ مَعَهُ	۶۵
	I didn't see anything beautiful then this/ nothing is better then this	میں نے اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔	Maa ra'aytu shai'an ajmala minhu	مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَجْمَلَ مِنْهُ	۶۶
	Don't get angry	غصہ نہ کیجیے۔	la taghzab	لَا تَغْضَبْ	۶۷
	Don't be jealous of each other	ایک دوسرے سے حسد نہ کیجیے	La tahaasadoo	لَا تَحَاسَدُوا	۶۸
	Thank you sir	میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔	Mashkoorun min fazeelatikum	مَشْكُورٌ مِنْ فَضِيلَتِكُمْ	۶۹
	Beware of places where one can become a victim of false accusations	تہمت کی جگہوں سے بچو۔	Ittaqoo mawaazi'atuhum	اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهْمِ	۷۰
	I am pleased to meet you	مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔	A'jabanee liqaa'ukum	أَعْجَبَنِي لِقَاءُكُمْ	۷۱
	I hope you will forgive me	امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔	Afwan lau samaht	عَفْوًا لَوْ سَمَحْتَ	۷۲
	You are wrong and I am right	آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔	Anta mukhtii wa ana museebun	أَنْتَ مُخْطِئٌ وَأَنَا مُصِيبٌ	۷۳
	You deserve a punishment	آپ ملامت کے مستحق ہیں۔	Anta taštahiqullu'ma	أَنْتَ تَسْتَحِقُّ اللُّؤْمَ	۷۴
	He had guests at his place.	اس کے ہاں مہمان آئے۔	Nazala bihiz-zaif	نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ	۷۵
	My brother had fever	میرے بھائی کو بخار ہو گیا۔	Akhi yu'aani bil humma	أَخِي يُعَانِي بِالْحُمَّى	۷۶
	Bring him to me.	اسے میرے پاس لاؤ۔	Alaiyya bihi	عَلَيَّ بِهِ	۷۷
	This is disgraceful for you or this humiliating for you.	یہ آپ کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔	Ala taštahi	أَلَا تَسْتَحِ	۷۸
	I love you from the bottom of my heart.	میں آپ کو نہ دل سے چاہتا ہوں۔	Uhibbuka min a'maaqi qalbi	أَحِبُّكَ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي	۷۹

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Don't embarrass me in front of other people	لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔	La tu'ayyirni amaaman-naas	لَا تُعَيِّرْنِي أَمَامَ النَّاسِ	۸۰
	This is a calamity	یہ مصیبت ہے۔	Hazihi museebah	هَذِهِ مُصِيبَةٌ	۸۱
	Show me what you brought.	جو آپ لائیں ہیں، وہ مجھے دکھائیے۔	Arini ma ji'ta bihi	أَرِنِي مَا جِئْتَ بِهِ	۸۲
	He is poetical in word or he is eloquent at speech	وہ کتنا شیریں کلام ہے۔	Maa ahlaa kalaamah	مَا أَحْلَى كَلَامَهُ	۸۳
	Avoid negative thoughts about something	بدگمانی سے بچو۔	Ijtaniboo soo'az-zan	اجْتَنِبُوا سُوءَ الظَّنِّ	۸۴
	Give people their due rights humbly.	کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے	Khaaliqinnaasa bikhuluqin hasanin	خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ	۸۵
	I received a letter from my home	مجھے میرے گھر کا خط ملا ہے۔	Wasala ilayya kitaabun min baitee	وَصَلَ إِلَيَّ كِتَابٌ مِنْ بَيْتِي	۸۶
	Do not delay today's work for tomorrow	آج کا کام کل پر مت ڈالو۔	la tu'akhhir amalal yaumi ilal-ghad	لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ	۸۷
	Whatever you want to do, do it today	جو کرنا ہے آج کر لو۔	E'maloo al-yauma ma shi'tum	اعْمَلُوا الْيَوْمَ مَا شِئْتُمْ	۸۸
	No one knows the unseen except Allah	غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔	La ya'lamul ghaiba illallah	لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ	۸۹
	We don't know what we have to do tomorrow	ہم نہیں جانتے، کل ہم کیا کریں گے۔	La nadri maaza naksibu ghadan	لَا نَدْرِي مَاذَا نَكْسِبُ غَدًا	۹۰
	Disclosing privacy is ignorance	راز فاش کرنا نادانی ہے۔	Ifshaa'us-sirri jahulun	إفشاء السِّرِّ جَهْلٌ	۹۱
	Honesty is dear to Allah or Allah loves honesty	سچائی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔	As-sidqu mahboobun ilallaahi ta'aala	الْبَصْدُ مَحْبُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى	۹۲
	I have some important work today	آج مجھے ضروری کام ہے۔	Al-yaumu indi shughlun haammun	الْيَوْمَ عِنْدِي شُغْلٌ هَامٌّ	۹۳
	Today we had breakfast with one of our friends	آج ہم نے اپنے ایک دوست کے پاس ناشتہ کیا۔	Al-yauma aftarna inda saahibin lana	الْيَوْمَ أَفْطَرْنَا عِنْدَ صَاحِبٍ لَنَا	۹۴
	I have a lot of work	مجھے بہت کام ہیں۔	Indi ashghaalun kaseceratun	عِنْدِي أَشْغَالٌ كَثِيرَةٌ	۹۵

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Don't talk in the masjid	مسجد میں باتیں مت کیجیے۔	La tatakallamoo fil masjid	لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الْمَسْجِدِ	۹۶
	May Allah bless your time with all goodness!	اللہ تمہارے اوقات مبارک کرے۔	As'adallaahu auqaatak	أَسْعَدَ اللَّهُ أَوْقَاتَكَ؟	۹۷
	How is your health?	آپ کی صحت کیسی ہے۔	Kaifa sihhatuk?	كَيْفَ صِحَّتُكَ؟	۹۸
	Thanks to Allah, now I am all right.	اللہ کا شکر ہے اچھا ہوں۔	Ana tayyibun, Alhamdulillah	أَنَا طَيِّبٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ	۹۹
	How is your family?	بال بچے کیسے ہیں؟	Kaifa haalul aaeelah	كَيْفَ حَالُ الْعَائِلَةِ	۱۰۰
	The weather has become bad.	موسم خراب ہو گیا۔	Saaral jawwu radee'an	صَارَ الْجَوُّ رَدِيئًا	۱۰۱
	I am shivering from cold	میں سردی سے کانپ رہا ہوں۔	Arta'idu minal baradi	أَرْتَعِدُ مِنَ الْبَرْدِ	۱۰۲
	Today's night would be a moonlight night bi-iznillah	آج کی رات چاندنی رات ہوگی۔ بآذن اللہ	Hazihil lailatu takoonu muqmiratan bi-iznillah	هَذِهِ اللَّيْلَةُ تَكُونُ مُقْمِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ	۱۰۳
	Read out your lesson to me	مجھے اپنے اسباق سنائیے۔	Sammi'ooni duroosakum	سَمِّعُونِي دُرُوسَكُمْ	۱۰۴
	I write with a pen	میں قلم سے لکھتا ہوں۔	Aktubu bilqalami	أَكْتُبُ بِالْقَلَمِ	۱۰۵
	This paper is rough	یہ کاغذ کھردرا ہے۔	Haazal qirtaasu khushnun	هَذَا الْقِرْطَاسُ خُشْنٌ	۱۰۶
	Hold this pencil.	پنسل پکڑیے۔	Khuz qalamar-rasaasi	خُذْ قَلَمَ الرَّصَاصِ	۱۰۷
	The bell rang	گھنٹی بج گئی۔	Duqqal jarasu	دُقَّ الْجَرَسُ	۱۰۸
	I stayed up all night	میں ساری رات جاگا۔	Sahirtul laila kullaha	سَهَرْتُ اللَّيْلَ كُلَّهَا	۱۰۹
	He wakes up early in the morning	وہ صبح سویرے جاگتا ہے۔	Huwa ya'staiqizu mubakkiratan	هُوَ يَسْتَيْقِظُ مُبَكِّرَةً	۱۱۰
	You wake up after sunrise.	تم سورج نکلنے کے بعد جاگتے ہو۔	Ta'staiqizu ba'da tuloo'ish-shams	تَسْتَيْقِظُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ	۱۱۱

الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Remember Allah while standing, sitting or lying down	کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کیجیے۔	Uzkurullaaha ta'aala qiyaaman wa qu'ooodan wa ala junoobikum	أَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ	۱۱۲
	Summer season is over.	موسم گرما گزر گیا۔	Maza faslus-saif	مَا فِي فَصْلِ الصَّيْفِ	۱۱۳
	I have no relation to this	اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔	Haza la yata'allaqu bi	هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِي	۱۱۴
	These things are all cheap	چیزیں پوری سستی ہیں۔	Al ashyaa'au kulluha rakheesah	الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا رَخِيصَةٌ	۱۱۵
	How much have you bought it for?	آپ نے یہ کتنے میں خریدا ہے؟	Bikam ish'taraita haza	بِكَمْ اشْتَرَيْتَ هَذَا	۱۱۶
	Everything is expensive	ہر چیز مہنگی ہے۔	Kullu shai'in ghaali jiddan	كُلُّ شَيْءٍ غَالِي جِدًّا	۱۱۷
	I would return back to my family very soon	معتزب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں گا۔	Saufa arji'au ila ahlee	سَوْفَ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي	۱۱۸
	What you said has not been understand by me	آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔	La afhamu kalaamak	لَا أَفْهَمُ كَلَامَكَ	۱۱۹
	I did not understand what you said	میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔	Ma fahimtu kalaamak	مَا فَهِمْتُ كَلَامَكَ	۱۲۰
	I want bread	میں روٹی چاہتا ہوں۔	Ureedul khubz	أُرِيدُ الْخُبْزَ	۱۲۱
	What is your occupation?	آپ کیا کام کرتے ہیں؟	Maa Mihnatuk	مَا مِهْنَتُكَ	۱۲۲
	I have been in this city since a month.	مجھے اس شہر میں ایک مہینہ ہو گیا	Shahrin kaamil qad maza fi hazal makaan	شَهْرًا كَامِلًا قَدْ مَضَىٰ فِي هَذَا الْمَكَانِ	۱۲۳
	I don't have money.	اب اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔	Maa Indi Maal	مَا عِنْدِي مَالٌ	۱۲۴
	I was searching this one only.	میں یہی تلاش کر رہا تھا۔	Wa kuntu abhasu haaza huwa munzu zamaan	وَكُنْتُ أَبْحَثُ هَذَا هُوَ مُنْذُ زَمَانٍ	۱۲۵
	Thank you very very much	آپ کا بہت بہت شکریہ / اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے	Jazakallaahu khairan	جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا	۱۲۶
	I have a good opinion about you	آپ سے متعلق میرا گمان بہت اچھا ہے۔	Anta saalihun fi husni zanni	أَنْتَ صَالِحٌ فِي حُسْنِي ظَنِّي	۱۲۷

NOTES

معلم گائیڈ

قواعد کی معرفت و تطبیق:

- پہلے قاعدے بتا کر مثالیں نہ سمجھائیں بلکہ پہلے مثالیں سمجھا کر پھر قواعد سمجھائیں۔
- مثلاً: ر جل اور الر جل، یہ دو لفظ بورڈ پر بڑے حروف میں لکھ کر طلبہ سے پوچھیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے بعد قاعدہ سمجھائیں۔
- اسی طرح مسلم اور مسلمیہ لکھ کر فرق بتانے کے لیے بولے اس کے بعد قاعدہ سمجھائیں۔
- بچوں کو قرآنی آیات سے connect کرتے ہوئے قواعد سمجھائیں، اس طرح بچوں کا قرآن سے تعلق بڑھے گا۔
- بچوں کے فہم کے مطابق جو آیات سمجھ میں آتی ہیں وہ انہیں یاد کرائیں اور سمجھائیں۔
- پارے عم یا سورۃ الفیل تا سورۃ الناس، قواعد کو fit کر کے سمجھائیں۔

حفظ الکلمات العربیة:

- اس کتاب میں موجود کلمات کے ساتھ ان کے اعضاء اور ہم معنی نئے کلمات بھی اپنی طرف سے Add کر کے طلبہ کو دیے جائیں اور ان کا استعمال کر کے بچوں کو سکھایا جائے۔
- مثلاً: مِنْ (یعنی from) کا استعمال اس طرح کر کے بتائیں:
- خرجت من الفصل، خرجت من المسجد، خرجت من الدکان، خرجت من السوق، خرجت من الملعب۔۔۔
- دوسری مثال: ذهبت الى المسجد، ذهبت الى الميدان، ذهبت للعمرة الى السعودية۔۔۔
- بچوں کو ابھی سے ہر لفظ کا usage سکھایا جائے۔

المحادثات والتعبيرات:

- اس کتاب میں نمونے کے طور پر کچھ محادثات دیے گئے ہیں، جب یہ یاد ہو جائیں تو اس pattern کے اور بھی الفاظ اضافہ کر کے یاد دلائیں۔
- الفاظ change کرتے جائیں اور جملے بدل بدل کر مشق کرائیں، اپنی جانب سے بھی اور طلبہ کی جانب سے بھی۔
- Audio System لا کر بچوں کو روزانہ Arabic Audio سناتے رہیں۔
- آڈیو کا استعمال نہایت اہم اور ضروری ہے، بچے صرف کتابیں نہ دیکھیں بلکہ سنتے بھی رہیں۔
- Arabic Cartoon میں جو گفتگو ہو رہی ہے اسے بھی پیش کریں۔
- Askislampedia.com کے kids section میں
- Arabic Audios & Videos موجود ہیں، اسی طرح
- Islamweb.net کے kid's section سے بھی طلبہ کو سناتے رہیں۔



صحۃ النطق:

بچوں کو حفظِ حدیث پر بھی ابھارا جائے۔ عربی پڑھتے ہوئے عجمیت بالکل نہ آئے، تجوید اور عربک لحن و لہجہ کا خاص خیال رکھ کر بچوں کو سکھائیں۔

Special track system:

نوٹ: بعض طلبہ درمیانِ کلاس سے حاضر ہوتے ہیں یعنی عربی کی ابتدائی کلاس میں جو پڑھایا گیا اس سے واقف نہیں رہتے، ایسے طلبہ کے لیے شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کے YouTube Rhymes سنائیں جو 313 الفاظ و معانی پر مشتمل ہیں اور ساتھ ہی Vocabulary Nur to UKG کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھائیں۔

شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ویب سائٹ ہے: www.askmadani.com

Knowing the Rules:

- Do not teach the rules first and then give examples, instead, give the examples first and then lay out the rule.
- For Example: الرجلَ and الرجلِ, first explain the example and then state the rule.
- In a same way, the differentiation should be explained first with an example like مسلم and مسلمة and then the rule should be explained.
- You should connect the students with the verses from the Qur'an while explaining the rule. This will help in increasing the connection of the students with the Qur'an.
- Enable the students to memorize the related verses of the Qur'an according their level of understanding.
- You should explain the Juz Amma or at least from Surah Feel to Surah Naas in accordance with the rules taught.

Learning the Arabic Vocabulary:

- You should use other vocabulary along with the vocabulary give in the book and make new sentences to explain to the students. Opposites should also be used while explaining and teaching the students.
- For Example: من (from) should be used like the following:
 - خرجت من الفصل. (I came out from the classroom)
 - خرجت من المسجد. (I came out from the masjid)
 - خرجت من الدكان. (I came out from the shop)
 - خرجت من السوق. (I came out from the market)
 - خرجت من الملعب. (I came out from the playground)
- Each word should be taken, and its usage should be explained.
- Another example: ذهبت الى المسجد. (I went to the masjid), ذهبت الى الميدان. (I went to the Ground), ذهبت للعمرة الى السعودية. (I went for Umrah to Saudi).
- They should be taught all the usages from now itself and it should not be delayed.

Conversations:

- Some examples of conversations have been given and once the pattern has been grasped, more words should be added and made to memorize.
- The words should be changed each time and practiced by both the teacher and the student.
- Audio system should be setup and everyday Arabic audios should be played.
- Using audios is very important since the students should not only look at the books but also listen to the audios.
- Arabic Cartoons should also be played so that it becomes entertaining for them.
- The Arabic audios and videos could be accessed from Islamweb.net's Kids section and also from Askislampedia.com's Kid's section. The students could listen from them.

Correct Pronunciation

- The kids should also be encouraged to memorize the Hadeeth. The pronunciation should be proper and read like the Arabs with proper tajweed and style of the Arabs. The should not speak Arabic in a foreign way.

Special Tracking System

Note: Some students attend the classes late or they join the class after missing the first few classes then they should be made to listen to Shaykh Arshad Basheer Madani's rhymes, and the Vocabulary book from Nursery to UKG should be downloaded and taught. The books could be downloaded from : askmadani.com





Factors aiding in the strengthening of our communication skills:

- Accurate Pronunciation
- Good Vocabulary
- Prepared phrases
- Some Maxims of 'Nahw' and 'Sarf' (Grammar)
They help in comprehending the Language of Quran, Sunnah and Stories.
- Specifically, those Arabic discussions and expressions which were already prepared for the easiness of learners.

It is necessary to read, memorize and repeat all of these notes. One should create an environment by recording his own speech. Therefore, we have decided to mention basic sciences for aiding the discussions.



قوت محادثہ کے لیے:

- ◆ اچھے لہجے (اصول تجوید)،
- ◆ اچھے کلمات (vocabulary)،
- ◆ اچھے بنے بنائے محادثات،
- ◆ کچھ قواعد نحو و صرف،
- ◆ قرآن و احادیث اور قصص کا فہم ممد و معاون ہوتا ہے۔
- ◆ خاص طور سے بنے بنائے مرتب عربی محادثات و تعبیرات

ان سب کو پڑھنا، یاد کرنا، دہرانا اور اپنا ہی آڈیو سن کر ماحول بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اس کتاب میں محادثات کے لیے ممد و معاون علوم و مبادیات کا بنیادی طور پر ذکر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے

ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے 6 زاویوں پر توجہ ضروری ہے

انیت یا ماہولیت ہو تو انہوں نے خود زبان سیکھنے پر انجیبت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔

Arshad Basheer Madani Notes



مباحث و فصاحت و بلاغت کا مطلب ہر بعد کا ہے اس کے علاوہ دیگر مذکورہ زاویوں پر ابتدائی سے توجہ دی جائے۔

مباحث ضرور حاصل کیجئے اور بار بار سنیے اس سے (1) انجیبت کا احساس ختم ہوگا، (2) انیت پیدا ہوگی، (3) اسلوب کا پتہ چلے گا، (4) ماحول قائم ہوگا، (5) بیان کے ذریعہ پڑھا احساس و شعور سے گزرتے ہوئے زبان سے جاری ہونا آسان ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ

مباحث جو بہرہ ہوتا ہے وہ اکثر گونا گویا ہوتا ہے لہذا کان کو عربی سمجھنے کا موقع دیجیئے۔

مباحث بچے سنتا ہے اور مادری زبان بولنے لگتا ہے۔

مباحث ماحول ہونا ضروری ہے، CD سے ماحول بنایا جا سکتا ہے یا خود اپنے موبائل سے ریکارڈ کر کے اور سنئے۔

We need to mainly focus on six dimensions while learning a new language:

01} Listening Power (CD of Audio Phrases) + Environment Our despair and the feeling of strangeness will be dissipated when our tongue starts articulating (on its own). We should record our own voice and frequently listen to it.

02} Memorization of Phrases and Prepared Talks + Practice This will aid in the removal of hesitation.

03} Basic Tajweed (Pronunciation and Style) It is necessary to possess the modality of the Arabic language in order to get a satisfied taste and enjoy the speech for a long time

04} Intonation + Speed This will increase our attachment for the style of Arabic language.

05} Some Basic Grammar + Elocution A lot of attention must be paid to 'Listening' when compared to 'Grammar'. However, it i.e. the portion of grammar should not be ignored.

06} Vocabulary

The distance travelled by a vehicle will be dependent on the amount of fuel it has consumed. Similarly, vocabulary plays the role of fuel in learning a language.

- The science of eloquence and conciseness of speech is on a far level. Besides this, one must strongly focus on the above mentioned dimensions from the beginning stage.
- Make sure that you obtain the CD and frequently listen to it. It will result in the removal of the feeling of strangeness, increase of attachment towards the language, awareness of the style of the language, and establishment of environment. It will pass from the ear through the curtains of feeling and consciousness; Thereby making it easy to flow from the tongue. [In'sha'Allaah]

- The one who is deaf is also a dumb guy, by default. Therefore, provide the opportunity for your ears to listen the language of Arabic.
- An infant speaks his mother language through listening.
- It is from the requisites to create an environment of listening and speaking while learning the language. It could be done using cd, listening to your own recordings.

9 نصیحتیں

Arshad Basheer Madani Notes
(کسی بھی زبان میں گفتگو کے لیے)

کسی بھی زبان خصوصاً عربی زبان میں گفتگو سے قبل مندرجہ ذیل نصیحتوں پر توجہ دی جائے تو ان شاء اللہ عربی گفتگو میں کافی مدد ملے گی اور گفتگو میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔ ان شاء اللہ، باذن اللہ۔
اللہ کی مدد اور اس سے دعا کے بعد ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور پڑھتے رہیں:
اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. (السلسلة الصحيحة: 2886)



عربی میں گفتگو کی آسانی کے لیے:

1 عام طور پر گرامر پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جبکہ زیادہ توجہ سننے (listening power) اور استعمال (practice) کرنے پر دینی چاہیے۔

Arshad Basheer Madani Notes



2 مادری زبان والے گرامر کم جانتے ہیں لیکن گفتگو کر لیتے ہیں لہذا مادری زبان والوں سے بار بار سبق لینا سیکھیں۔




3 اپنے کان کو سنا کر مانوس کریں اور Prepared Phrases کو غور سے سن کر تکرار کرنے کی کوشش کریں۔ خود اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے بار بار سنئے

Arshad Basheer Madani Notes

مرحبا
صبح الخبير
مساء الخبير
أهلا وسهلا
وداعا
كيف حالك؟

Vocabulary سے زیادہ Phrases یاد کرنے پر توجہ دیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف Vocabulary یاد کرتے ہیں دوسری طرف گرامر لیکتے ہیں پھر اپنی طرف سے دونوں کو جوڑ کر جملے بنا کر گفتگو کی کوشش کرتے ہیں اس سے ذہن پر بار بہت پڑتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بنے بنائے جملے یاد کر لیں تو آپ جلدی سنے مافی التعمیر کو ادا کر سکیں گے۔ لوگ بھی سمجھیں گے اور Response بھی ملے گا، بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔

4



اچھی بات کرنے کے لئے Priority کا خیال رکھیے،

5



اکثر دیکھا گیا ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے لکھنے کی exercise تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن بولنے کی exercise پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ نتیجہ میں لکھنے (writing power) میں تو مہارت آ جاتی ہے لیکن بولنے (محادثہ) (speaking power) میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔

6



سننے اور بولنے کا ماحول (Environment) ضرور بنائیے۔
 دکاندار کا کردہ حصہ سننے سے ہے
 Headset
 زبان والوں سے دوستی
 Cd's / Mobile
 ان سب کے ذریعے جملے پھرتے سننے سے جو آپ phrases یاد کر رہے ہیں۔

7

♦ عرب لوگ اردو میں بات کر لیتے ہیں جب وہ کثرت سے ہندوستانوں سے ملتے ہیں، اس مثال سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سننے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم ہندوستان میں خطبے نہیں سنتے نہ عربی دروس نہ عربی گفتگو نتیجہ میں عربی میں لکھنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن عربی میں بات کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔

♦ آپ جانتے ہیں جو بہرہ ہوتا ہے وہ default by گوگلا بھی ہوتا ہے۔ جو دیکھتا ہے نظروں اور تہذیب و فہم کی مدد سے وہ لکھنے کے قابل بن جاتا ہے اور جو سننے میں powerful ہوتا ہے وہ بولنے میں بھی powerful ہوجاتا ہے۔



آپ کو عربی سیکھنے یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سمجھیں جانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ اپنا ماحول خود بنا لیں، اپنے اطراف میں لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کیجیے اور ماحول بنائے جو آپ سے وہی زبان میں بات کریں جس زبان کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا CD کثرت سے سنیں۔

8

♦ صرف انگلش اسکول یا عربی اسکول جانے سے بات کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ ماحول سے بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچہ انگلش یا عربی اسکول بلکہ انگلش یا عربی ملک میں ہوتا ہے لیکن اپنی ہی زبان والوں سے ملتا جلتا ہے تو بات نہیں آتی۔ اس سے بچہ چلا کر ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے اور ماحول سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے، جس زبان کے سیکھنے کی ضرورت ہے اس زبان والوں سے بات کرنے کی کوشش کی جائے۔

♦ مند جانتا ہے کہ کسی کو بھی راتوں رات کوئی زبان نہیں آ سکتی، پھر عربی سیکھنے میں شرمانے کی کیا وجہ ہے؟ مفید علم کے حاصل کرنے میں شرمانا اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے مترادف ہے اور غیر ضروری شرمیلا پن انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔



Material اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس بارے میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ Practice سے آدمی Perfect بن جاتا ہے لیکن اگر غلط Practice ہو جاتی ہے تو غلط چیز میں Perfect بن جاتا ہے، اس لیے material اچھا ہونا ضروری ہے۔

9

♦ کچھ لوگ نیز سنتے ہیں آخر میں کچھ ایسے political word استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عام پبلک کے سمجھ کے باہر ہوتے ہیں۔

♦ کچھ لوگ غیر مادری زبان والوں سے بات کر کے practice کرتے ہیں جو ایک حد تک صحیح ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیکھنے کی شروعات تو ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے اس فائدہ کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے جس پر کنٹرول کرنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ سننے سیکھنے والے ایک دوسرے کی غلطی کو بھی سمجھ کر عادت میں شامل کر لیتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر material کی تلاش میں رہیں اور اپنے غلطیوں کو کنٹرول کرتے رہیں اور سستی نہ برتیں۔

9 Advices to Learn A Language

To learn any language, especially the Arabic Language, if one focuses on the following advices then In'sha'Allaah, a lot of help will be received in learning the language and the difficulties in conversation will be removed.

[In'sha'Allaah, Bi'iz'nillaah]

All difficulties become easy after invoking Allaah and seeking his help. Hence always remember the following supplication:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا ، وَأَنْتَ إِذَا شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلًا
(السلسلة الصحيحة 2886)

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 72 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

1

Generally, a lot of attention is paid to Grammar while learning the new language. However, it should be diverted to 'Listening' and 'Practicing' the new language.



2

The people who are native speakers of the Language are widely unaware of the grammar of their language but they articulate fine discussions, hence one should observe them and take lessons from them.



3

You should make your ears accustomed to the language and the previously prepared phrases should be listened with good attention and pondered upon. You should record your own voice and frequently listen to it.




4

Focus should be given on learning phrases more than the vocabulary. Generally, we see that a student learns the vocabulary on one hand and learns grammar on the other hand. Then, he tries to compose a sentence which creates a lot of stress on the mind. This causes despair. However, if you learn 'readymade' phrases then it would be easier for you to speak with flawless grammar. Moreover, people will also understand and they will respond to you. It will also make learning and speaking Arabic language fascinating.

مرحبا
صباح الخير
مساء الخير
أهلا وسهلا
وداعا
كيف حالك؟

5

One should prioritize to speak pleasantly.



6

It has been seen that while learning the language a lot of focus is given on writing exercises and it is done a lot, however there is no focus on oral exercises. Hence, a person becomes prolific in writing the language but he becomes weak in his speaking skills.



7

One should create an environment of listening and speaking the language. It could be done using headsets, cd, mobile phone, making friends with the native speakers, listening to your own recordings. Hence, you should keep listening to the phrases which you are memorizing while walking, travelling, etc...



We have seen that Arab people are able to speak Urdu due to their continuous listening of the language. You can understand a lot with this example that listening has so much power to it. In India, we neither listen to Arabic Lectures nor do we listen to Arabic conversations. Hence, we could find a lot of people who are able to read and write Arabic but we find few people who are able to speak Arabic.

You know that the one who is deaf is also a mute person, by default. The one who learns using his vision and intellect will be able to read and write the language. However, the one who has powerful listening skills, he will also end up in gaining powerful speaking skills.

It is not mandatory to join an English or Arabic School to learn a language. One can learn the ability to converse in a language by creating an environment which will help you in speaking the desired language. Such as making friends who speak the language which you want to learn, frequently listening to audio systems etc...

Many a times, a child goes to an English or Arabic School, or maybe he lives in an English or Arabic country. However, he keeps meeting only those people who speak his language, so he will be unable to converse in the required language. Hence, we got to know that an environment is also necessary and utilizing that environment is also obligatory. So, you should also try to converse with the people of that language. [The language which you are intending to learn]

An Intelligent person knows, that no one can learn a language overnight, then why should one shy away from learning Arabic? Shying in seeking knowledge will make you backward and unnecessary shyness becomes an obstacle in ones development.



8

You need not go anywhere to learn Arabic or any other language. For that matter; you should create your own environment. You should make friends with such people who would help you in learning the language by speaking to you in that language only or you could listen a lot to the Arabic Cd's and audios.



9

The study material should also be exemplary. A lot of mistakes occur in this section. It is said that Practice makes a man perfect. Hence, if he practices a wrong thing, he becomes perfect in it. Hence, material should also be up to the mark.



Some people listen to the news to learn the language and hence start to use such political words which are not understood by the common people. Some people practice the language by speaking with non-native people, which is right to some extent. Its benefit is that one begins his journey to learn, however there is a lot of harm which is necessary to be controlled. It so happens, that speaking with such people, the mistakes are made into a habit. Hence, one should always try to learn with the best material and keep working hard and avoid laziness in the pursuit of learning the language.





ASK ISLAM PEDIA

GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia



ASK ISLAM PEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

For More Details Contact

Arshad Madani +91-92906 21633

Mansoor +91-93909 93901



Contact @

www.abmqurannotes.com | www.askislampedia.com
www.askmadani.com

Publisher & Printer

ABM Print Time

+91-99890 22928

abm.printtime@gmail.com